



دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے ایک ماہ کے رمضان اعتکاف کا شیڈول

ایک ماہ کا اعتکاف جدول

(1446ھ / 2025ء)

اعتکاف جدول

اعتکاف کے فضائل

رہنما کتب و رسائل کے لنکس

اعتکاف مجالس اور ان کے کام



پیشکش: پاکستان مشاورت آفس

(دعوتِ اسلامی)

دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے ایک ماہ کے رمضان اعتکاف کا شیڈول

ایک ماہ کا اعتکاف جدول

(1446ھ / 2025ء)

فہرست

74.....﴿13﴾ رمضان المبارک	3.....اعتکاف کے فضائل
76.....﴿14﴾ رمضان المبارک	8.....دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
78.....﴿15﴾ رمضان المبارک	14.....رمضان المبارک کی 12 نیتیں
80.....﴿16﴾ رمضان المبارک	15.....ایک ماہ اعتکاف مجالس
83.....﴿17﴾ رمضان المبارک	15.....مجالس کے نام اور ان کے ذمے کام
85.....﴿18﴾ رمضان المبارک	43.....ایک ماہ اعتکاف جدول ایک نظر میں
87.....﴿19﴾ رمضان المبارک	45.....اعتکاف جدول کی رہنما کتب و رسائل
90.....﴿20﴾ رمضان المبارک	47.....ایک ماہ اعتکاف کا تفصیلی جدول
92.....﴿21﴾ رمضان المبارک	47.....﴿1﴾ رمضان المبارک
94.....﴿22﴾ رمضان المبارک	49.....﴿2﴾ رمضان المبارک
97.....﴿23﴾ رمضان المبارک	51.....﴿3﴾ رمضان المبارک
99.....﴿24﴾ رمضان المبارک	53.....﴿4﴾ رمضان المبارک
101.....﴿25﴾ رمضان المبارک	56.....﴿5﴾ رمضان المبارک
103.....﴿26﴾ رمضان المبارک	58.....﴿6﴾ رمضان المبارک
106.....﴿27﴾ رمضان المبارک	60.....﴿7﴾ رمضان المبارک
108.....﴿28﴾ رمضان المبارک	62.....﴿8﴾ رمضان المبارک
111.....﴿29﴾ رمضان المبارک	65.....﴿9﴾ رمضان المبارک
113.....﴿30﴾ رمضان المبارک	67.....﴿10﴾ رمضان المبارک
افطار اجتماع کا یومیہ جدول اور تیاری کا طریقہ	69.....﴿11﴾ رمضان المبارک
117.....	71.....﴿12﴾ رمضان المبارک

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ایک ماہ کا اعتکاف جدول

درد شریف کی فضیلت

جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے: اے اللہ پاک! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے: اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔ (مسند الفردوس، 1/10، حدیث: 6026)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اعتکاف کے فضائل

پیارے اسلامی بھائیو! رَمَضَانَ المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے! یوں تو اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت بے پایاں برکتیں لئے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شبِ قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لئے ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ماہِ رَمَضَانَ پاک کا پورا مہینا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری دس دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت ”آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم رَمَضَانَ المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شَوَّالُ المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔“ (بخاری، 1/671، حدیث: 2041)

ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رَمَضَانَ

شریف میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (ترمذی، 2/212، حدیث 803 ملاحظاً)

دس دن کا اعتکاف

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ (یعنی آخری دس دن) کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات (ظاہری) عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔

(بخاری، 1/664، حدیث: 2026)

معتکف کا مقصود اصلی انتظارِ نمازِ باجماعت

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کیلئے کُفَّيَّةً (یعنی مکمل طور پر) اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مُشَمِّک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغلِ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ پاک کے قُرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں۔ (کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے) اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے اور معتکف اُن (فرشتوں) سے مُشابہت رکھتا ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مُشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ پاک کی تسبیح (پاکی) بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، 1/212)

ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کیلئے ایک دن کا

اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے ہر خندق کی مسافت (یعنی ذوری) مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔

(مجموع اوسط، 5/279، حدیث: 7326)

سارے مہینے کا اعتکاف

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”ایک مرتبہ سلطانِ دو جہان، شہنشاہِ کون و مکان صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یکم رمضان سے بیس رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”میں نے شبِ قدر کی تلاش کیلئے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شبِ قدر آخری عشرے میں ہے لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔“

(مسلم، ص 594، حدیث: 1167)

دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

(1) جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کئے۔ (شعب الایمان، 3/425، حدیث: 3966)

(2) اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کیلئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لئے ہوتی ہیں۔ (ابن ماجہ، 2/365، حدیث: 1781)

بغیر کیے نیکیوں کا ثواب

مفسرِ شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2 کے تحت مرآة جلد 3 صفحہ 217 پر فرماتے ہیں: ”یعنی اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ عکف کے معنی ہیں روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ غیبت،

جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں سے اختلاط کے باعث ہوتی ہے معتکف گوشہ نشین ہے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا جیسے زیارتِ قبورِ مسلمان سے ملاقاتِ بیمار کی مزاج پرسی، نمازِ جنازہ میں حاضری اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، ان شاء اللہ الکریم غازی، حاجی، طالب علم دین کا بھی یہ ہی حال ہے۔“

روزانہ حج کا ثواب

حضرت سیڑنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: ”معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔“ (شُعَبُ الْإِيمَان، 3/425، حدیث: 3968)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(نوٹ: مذکورہ بالا مضمون فیضانِ رمضان، ص 227 تا 233 سے نقل کیا گیا ہے)



دعوتِ اسلامی میں اجتماعی اعتکاف کی ابتدا

پیارے اسلامی بھائیو! ہر سال دعوتِ اسلامی کے تحت ہزار ہا اسلامی بھائی پورے رمضان المبارک اور آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں۔ اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت بَرَکاتُہُمُ الْعَالِیَہ اس اعتکاف کی شروعات اور اپنے پہلے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دعوتِ اسلامی بننے سے شاید تین یا چار سال پہلے جن دنوں میں نور مسجد کا غازی بازار

میں امامت کرتا تھا اُس وقت میں نے اعتکاف شروع کیا اور میں اکیلا ہی اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ اکیلے بیٹھنے میں بڑی آزمائش تھی کیونکہ رات کو تو اسلامی بھائی آجاتے اور لیکن صبح وہ سب چلے جاتے اور میں اکیلا رہ جاتا، مسجد کے اوپر کا حصہ جہاں میں رہتا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور کبوتروں کی ایک تعداد تھی جو وہاں پھڑ پھڑاتے رہتے تھے، پھر یہ علاقہ میمنوں کا تھا جہاں رمضان کے آخری دس دنوں میں چندہ مانگنے والے مائیک لے کر اعلانات کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش تھی، میں سو نہیں سکتا تھا اور یونہی کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، بخار ہوا اور اُلٹی بھی آئی، قریب تھا کہ میں دل چھوڑ بیٹھتا اور گھر چلا جاتا لیکن الحمد للہ میں نے اعتکاف مکمل کیا۔ پھر اگلے سال میں نے انفرادی کوشش کر کے دو اور اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور تیسرے یا چوتھے سال ہی اس مسجد میں ایک ساتھ 28 افراد نے اعتکاف کیا۔ یہ بہت ہی انوکھی چیز تھی اور لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ 28 لوگ اور وہ بھی نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ دراصل پہلے اعتکاف کا یہ انداز ہوتا تھا کہ محلے والے اعتکاف کے لیے کسی بوڑھے آدمی کو تلاش کر لیتے تھے، اسے دو ٹائم کا کھانا پینا دیتے تھے اور وہ بے چارہ ایک پردہ ٹانک کر تلاوت کرتا رہتا تھا لیکن اس انداز میں اعتکاف ایک بالکل نئی چیز تھی اس لیے اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر اس کے بعد دعوتِ اسلامی بھی بن گئی اور ہم نے دعوتِ اسلامی کے سب سے پہلے مرکز گلزارِ حبیب مسجد میں اعتکاف کیا تو وہاں پہلے ہی اعتکاف میں 60 افراد نے اعتکاف کیا۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اب تو کچھ سالوں سے ایک ماہ کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ دوسرے ممالک تک اس کا سلسلہ پھیل چکا

ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ الحمد للہ ہزاروں افراد رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور آخری عشرے میں تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب تو اعتکاف کی ایسی بہاریں آچکی ہیں اور اس کا ایسا ڈنکا بجا ہے کہ اب کئی لوگوں کے لیے یہ ہر سال کا معمول بن چکا ہے کہ انہوں نے دس دن کا اعتکاف کرنا ہے، اس کے بغیر انہیں مزہ نہیں آتا۔ اب یہ صرف دعوتِ اسلامی کے ماحول میں ہی نہیں بلکہ دوسری سٹی مساجد میں بھی اسی انداز میں ذوق و شوق کے ساتھ اعتکاف ہو رہے ہیں گویا لوگوں کا ایک Trend بن چکا ہے کہ رمضان شریف میں اعتکاف کرنا ہے۔ الحمد للہ دعوتِ اسلامی کی ایک سوغات یہ بھی ہے کہ اس نے اعتکاف کے ذوق و شوق کی تجدید کی ہے اور اعتکاف کا وہ جذبہ جو ماند پڑ چکا تھا اسے پھر سے جگا دیا ہے۔

(مدنی مذاکرہ نمبر: 132، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، قسط 4)

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

آہیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں ، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں ، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 جلوہ یار کی آرزو ہے اگر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 بیٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 مرضِ عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 آؤ آؤ ادھر ادھر آ بھی جاؤ ادھر دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 چوٹ کھا جائے گا اک نہ اک روز دل، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 فضلِ رب سے ہدایت بھی جائے گی مل، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

فضلِ رب سے گناہوں کی کالک دُھلے،
 نیکیوں کا تمھیں خوب جذبہ ملے،
 گرچہ دل میں ہے فیشن کی اُلفت بھری،
 عمر آئندہ گزرے گی سُنّت بھری،
 بھائی گر چاہتے ہو ”نمازیں پڑھوں“،
 نیکیوں میں تمنا ہے ”آگے بڑھوں“،
 تم کو راحت کی نعمت اگر چاہئے،
 بندگی کی بھی لذت اگر چاہئے،
 موت فضلِ خدا سے ہو ایمان پر،
 رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر،
 رحمتیں لوٹنے کے لئے آؤ تم،
 سنتیں سیکھنے کے لئے آؤ تم،
 گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی،
 ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی،
 آؤ آ کر گناہوں سے توبہ کرو،
 رحمتِ حق سے دامن تم آ کر بھرو،
 ختم ہوگی شرارت کی عادت چلو،
 دُور ہوگی گناہوں کی شامت چلو،
 بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے،

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 ولولہ دیں کی تبلیغ کا پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 فضل رب سے زمانے پہ چھا جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 حُب دنیا سے دل پاک ہو جائیگا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 جامِ عشقِ محمد بھی ہاتھ آئیگا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 مان لو بات اب تو مری مان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 لینے خیرات تم رحمتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 لٹنے برکتیں سنتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 خالی دامن مرادوں سے بھر جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 میٹھے آقا کی اُلفت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 داڑھی رکھنے کی سنت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 اِنْ شَاءَ اللّٰہ ہر کام ہوگا بھلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دور ہوگی بفضلِ خدا ہر بلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 لوٹ لو آ کر اللہ کی رحمتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 گیت گانے کی عادت نکل جائیگی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائیگی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

خوش خدا ہو گا بن جائیگی آخرت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
تنگ دستی کا حل بھی نکل آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
روزگار ان شاء اللہ مل جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
عاشقانِ رسول آؤ دیں گے بیاں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
دور ہوں گی عبادات کی خامیاں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
باجامعت نمازوں کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
دل کا پڑمردہ غنچہ خوشی سے کھلے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
سیکنے زندگی کا قرینہ چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
دیکھنا ہے جو میٹھا مدینہ چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
ان شاء اللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
مرضِ عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
دل میں بس جائیں آقا کے جلوے مُدام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
دیکھو مکے مدینے کے تم صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
صحبتِ بد میں رہنے کی عادت چھٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
خصلتِ جُرم و عصیاں تمہاری مٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
آؤ عشقِ محمد کے پینے کو جام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
مست ہو کر کرو خوب تم دینی کام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
زندگی کا قرینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
آؤ دردِ مدینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

آؤ سنّت کا فیضان پاؤ گے تم،
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَنّت میں جاؤ گے تم،
 تم کو تڑپا کے رکھ دے گو دردِ کمر،
 پاؤ گے تم سُکوں ہو گا ٹھنڈا جگر،
 رنگِ رلیاں منانے کا چسکا مٹے،
 رقص کی محفلوں کی نُخوست چھٹے،
 ڈھول باجوں کو سُننے سے باز آؤ تم،
 فلمی گانے نہ ہرگز کبھی گاؤ تم
 چھوڑ دو چھوڑ دو بھائی رِزقِ حرام،
 آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام،
 فضلِ رب سے ہو دیدارِ سلطانِ دیں،
 شادمانی سے جھومے گا قلبِ حَزین،
 مان بھی جاؤ عطار کی التجا
 ہو گا راضی خدا خوش شہِ انبیاء،

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلَی مُحَمَّد

رمضان المبارک کے بارہ حروف کی نسبت سے رمضان المبارک کی 12 اچھی نیتیں

(ان میں سے جن پر عمل کرنے کا ذہن ہو وہ نیتیں کر لیجئے:)

- (1) اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رمضان کریم میں خوب نیکیاں کروں گا۔
- (2) تراویح سمیت پانچوں نمازیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔
- (3) روزوں کے ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھوں گا۔
- (4) اپنے آپ کو گناہوں، برے کاموں، فضول کاموں اور فالتو باتوں سے بھی بچاؤں گا۔
- (5) زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا۔
- (6) پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا۔
- (7) فرض و واجب صدقات دینے مثلاً فطرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا۔
- (8) پڑوسیوں اور سفید پوش رشتے داروں وغیرہ کی مالی مدد کروں گا۔
- (9) رمضان کریم کی طاق (ODD) راتوں میں ”صلوٰۃ التسخیر“ پڑھوں گا۔
- (10) پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری دس دن کا اعتکاف کروں گا۔
- (11) اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔
- (12) جتنا ہو سکا باوجود ہوں گا۔ ان شاء اللہ الکریم

خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو رب کو راضی کر کے تم سوئے جنائ بڑھتے رہو



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد

(نوٹ: اسلامی بہنیں حسب ضرورت ترمیم کر لیں)

ایک ماہ اعتکاف مجالس

اعتکاف نگران (9 مجالس)

(1) جدول نگران (2) انتظامی امور نگران (3) قافلہ (4) سیکورٹی مجلس (5) خیر خواہ مجلس (6) خود کفالت (6) رابطہ برائے شخصیات (8) ہفتہ و اجتماع و مدنی مذاکرہ (9) مجلس کارکردگی۔

میں مجلس اور ان کے تحت ذیلی مجالس کے نام اور ان کے ذمے کام

#	میں مجلس	ذیلی مجالس / ذمہ داران
1.	جدول نگران (4 ذیلی مجالس)	ذمہ داران: * معاون جدول نگران * اعتکاف علاقائی نگران، معاون علاقائی نگران * اعتکاف حلقہ نگران، معاون حلقہ نگران۔ ذیلی مجالس: (1) اصلاح اعمال (2) عیادت مجلس (3) مدرسۃ المدینہ بالغان (4) احکام نماز کا حلقہ
2.	انتظامی امور نگران (15 ذیلی مجالس)	* خریداری * صفائی ستھرائی * تیاری طعام * فراہمی طعام * تحفظ رزق * پینا فلیکس / کارڈ * فنانس * روحانی علاج * ڈسپینسری * خوشبو مجلس * امانت و گمشدہ سامان کاؤنٹر * مکتبۃ المدینہ اسٹال * کینیٹین * مسجد سے متعلقہ انتظامی امور * جوتا اسٹینڈ
3.	قافلہ	* نیت مجلس * استقبالیہ * تصدیق مجلس * دار السنہ

چاند رات قافلہ	(5 ذیلی مجالس)	
سیکیورٹی پارکنگ CCTV	سیکیورٹی مجلس (3 ذیلی مجالس)	.4
خیر خواہ مجلس	خیر خواہ مجلس	.5
خود کفالت لنگر رضویہ ڈونیشن کاؤنٹر	خود کفالت (3 ذیلی مجالس)	.6
رابطہ برائے شخصیات	رابطہ برائے شخصیات	.7
افطار اجتماعات رمضان مدنی مذاکرے رمضان کے ہفتہ وار اجتماعات	ہفتہ وار اجتماع ومدنی مذاکرہ (3 ذیلی مجالس)	.8
اعتکاف سے متعلقہ کارکردگیاں فیڈبیک ڈیٹا انٹری 26 ویں شریف کی نیتیں"	مجلس کارکردگی (4 ذیلی مجالس)	.9

1. اعتکاف نگران

1.1. اعتکاف سے پہلے کے کام

- اعتکاف کے لئے منتخب کردہ مقام کا وزٹ کرنا۔
- اعتکاف کے مقام پر 9 رکنی مجلس اور ان کے تحت ذیلی مجالس پر فعال ذمہ داران مقرر کرنا/ کروانا۔
- اعتکاف نگران کے پاس تمام اراکین کے نام، رابطہ نمبر اور ذمہ داریوں کی تفصیل

تحریری طور پر ہونی چاہئے۔

✽ اعتکاف کے مقام سے متعلقہ ٹاؤن / یوسی نگران سے اعتکاف کی تیاری سے متعلق مدنی مشورہ کرنا۔

✽ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر طلباء و اساتذہ کرام کو اعتکاف کی دعوت دینا۔ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے 12 دینی کاموں کے ذمہ داران سے بھی مشاورت ہو تو بہتر ہے۔

✽ اعتکاف کی نیت کرنے والوں کا ڈیٹا موبائل ایپ میں انٹر کروانا اور اس کا جائزہ لینا۔
✽ معتکفین کی متوقع تعداد کے مطابق بنیادی ضروریات مثلاً غُسل خانے، استنجاء خانے، وضو خانے وغیرہ چیک کرنا اور کسی کمی / کمزوری کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم سے پیشگی حل کروانا۔

✽ اعتکاف کے مقام پر بجلی کے متبادل یو۔ پی۔ ایس یا جنریٹر کا انتظام کروانا۔
✽ فیضانِ مدینہ (مدنی مراکز) میں ضرورتاً خادمین، سیکورٹی گارڈ اور باورچی وغیرہ مقرر کرنا۔ (نوٹ: خادمین و باورچی شعبہ فیضانِ مدینہ (مدنی مراکز) کے طریقہ کار کے مطابق ناظم الامور کے تحت ہوں گے)

✽ HR کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ / آخری عشرے کا اعتکاف کروانے والے مبلغین کا ضرورتاً اجارہ یا خیر خواہی کی ترکیب کرنا۔

1.2. اعتکاف کے دوران کے کام

✽ اعتکاف کی مین مجالس کے مشورے کرنا، ضرورتاً ان کے تحت ذیلی مجالس کو مشاورت میں شامل کرنا، مدنی مشوروں میں نظام کو بہتر کرنے اور جائزہ کے دوران آنے والی

- ◉ کمزوریوں کو دور کرنے کے اقدامات کرنا۔
- ◉ وقتاً فوقتاً اعتکاف کے حلقوں میں جانا، اعتکاف کو جدول کے مطابق چیک کرنا اور ضرورتاً مسجد کے آداب بتانا۔
- ◉ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کے انتظامات چیک کرنا اور کمزوری کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم کی معاونت سے بہتر کرنا۔
- ◉ روزانہ کھانے کا معیار چیک کرنا اور بیمار عاشقانِ رسول کے لئے پرہیزی کھانے کا انتظام کروانا۔
- ◉ حلقوں کی تقسیم کاری کے مطابق اسلامی بھائیوں کو چیک کرنا اور حکمتِ عملی کے ساتھ اپنے اپنے حلقے میں بیٹھنے کا ذہن دینا۔
- ◉ معتکفین کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک پر متعلقہ اعتکاف مجلس سے مشورہ کرنا اور بہتر حل تلاش کرنا۔

2. جدول نگران

- ◉ معتکفین کو کتاب فیضانِ رمضان سے اعتکاف کی نیتیں کروانا، جدول پر عمل کی اہمیت، ضرورت، فوائد بتانا اور 100% عمل کروانے کی بھرپور کوشش کرنا۔
- ◉ اعتکاف نگران کی مشاورت سے معاون جدول نگران کا تقرر کرنا۔
- ◉ معتکفین کی تعداد کے مطابق علاقائی نگران، معاون علاقائی نگران، حلقہ نگران، معاون حلقہ نگران اور ذیلی مجالس مثلاً اصلاحِ اعمال، عیادت مجلس وغیرہ کے ذمہ داران مقرر کرنا۔
- ◉ حتی الامکان ذیلی مجالس کے لئے ”مدنی“ اور تنظیمی ذمہ داران کا تقرر کرنا۔

✽ اپنے تحت ذمہ داران کی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرنا اور ان کے مسائل حل کرنا۔

2.1. معاون اعتکاف جدول نگران

✽ طے شدہ اوقات کار اور طریقہ کار کے مطابق اعتکاف جدول چلانے میں جدول نگران کی معاونت کرنا اور اس کی غیر موجودگی میں جدول چلانا۔

2.2. اعتکاف علاقائی نگران

(جدول نگران، اعتکاف نگران کی مشاورت سے اعتکاف علاقائی نگران کا تقرر کریں)۔

✽ 10 سے 12 معتلفین پر مشتمل ایک حلقہ بنا کر اس پر ایک نگران مقرر کرنا۔

✽ حلقہ نگران ”سنجیدہ، بااخلاق، ملنسار اور اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر ”چلنے والا ہونا چاہئے۔ (حلقہ نگران 12 ماہ والا یا کسی بھی سطح اور شعبے کا تنظیمی ذمہ دار ہو تو بہتر ہے)

✽ روزانہ کی بنیاد پر حلقہ نگرانوں سے کارکردگی لینا۔

✽ حلقہ نگرانوں سے اعتکاف سے متعلق آنے والے مسائل سننا اور ان کا بروقت حل کروانا۔

✽ جدول نگران / اعتکاف نگران کی مشاورت سے ضرورتاً معتلفین کے حلقے و حلقہ نگران کی تبدیلی کرنا۔

✽ کسی شرعی عذر کے سبب اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور وہ اعتکاف سے چلا جائے تو فوراً ان سے رابطہ کرنا اور انہیں واپس اعتکاف کروانے کی کوشش کرنا۔

نوٹ:- ضرورت کے پیش نظر حلقوں کی تعداد یا حلقہ نگران کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔

2.3. اعتکاف حلقہ نگران

- ❁ اعتکاف علاقائی نگران کی طرف سے دیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا۔
- ❁ معتکفین کا سامان اچھے انداز میں مقررہ جگہ (مثلاً دوستونوں کے درمیان / ہال کی پچھلی جانب کسی دیوار کے ساتھ وغیرہ) پر رکھوانا۔
- ❁ معتکفین کو دعوتِ اسلامی کے شعبہ جات (جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، دارالافتاء اہلسنت اور FGRF وغیرہ)، موبائل ایپلی کیشنز (Islam, Prayer Time for ever، صراط الجنان، فتاویٰ رضویہ، بہار شریعت وغیرہ) اور ویب سائٹس کا تعارف کروانا۔
- ❁ معتکفین کو ہر سال رمضان اعتکاف (1 ماہ / آخری عشرہ) کرنے کا ذہن دینا اور ان کو دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع و ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، قافلہ اور مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ میں شرکت کرتے رہنے کی ترغیب دلانا۔
- ❁ معتکفین کو ترغیب دلائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کو دعوتِ اسلامی کے اداروں مثلاً مدرسۃ المدینہ (گرلز / بوائز)، جامعۃ المدینہ (گرلز / بوائز) اور دارالمدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی وغیرہ میں داخل کروائیں۔
- ❁ معتکف کی طبیعت خراب ہونے / ایمر جنسی کی صورت میں اعتکاف نگران کو فوری اطلاع کرنا۔
- ❁ معتکفین کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سُلانا اور بیدار کرنا۔
- ❁ سحری و افطاری کے لیے عاشقانِ رسول کو حلقہ وائز بٹھانا۔

2.4. اصلاح اعمال

❁ “ماہ رمضان ماہ نیک اعمال” تنظیمی طور پر طے شدہ ہے۔ ایک ایک معتکف تک نیک اعمال کا رسالہ پہنچانا۔

❁ معتکفین میں نیک اعمال کے رسائل تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل ایپ کا تعارف کروانا اور انسٹال (Install) کروانا۔

❁ معتکفین کو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ کرنا۔

❁ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ملنے والی مختلف دینی تحریکوں (مثلاً، نمازی بناؤ تحریک، فیضان مسواک، تلاوت و درود خوانی وغیرہ) کے متعلق معلومات فراہم کرنا۔

❁ دوران اعتکاف معتکفین کو دینی تحریکوں میں سے جن پر عمل ہو سکے، ان پر عمل کروانا۔
 ❁ معتکفین کو بعد اعتکاف بھی نیک اعمال کے رسائل کا روزانہ جائزہ لینے اور ہر عیسوی ماہ کی پہلی تاریخ کو نیک اعمال کا رسالہ جمع کروانے کا ذہن دینا۔

2.5. عیادت مجلس

❁ عیادت مجلس میں سے اعتکاف کے مقام پر کم از کم ہر وقت 2 اسلامی بھائیوں کا موجود ہونا۔

❁ معتکفین میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں مریض کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا۔

❁ بیمار اسلامی بھائیوں کو میڈیسن دینا اور اُن کے لئے پرہیزی کھانے کا انتظام مجلس نگر رضویہ کے ذریعے کروانا۔

❁ حلقہ نگرانوں کو ایمر جنسی کی صورت میں رابطہ کرنے کیلئے عیادت مجلس کا نمبر دینا۔

2.6. مدرسۃ المدینہ بالغان

- ✽ حاضری رجسٹر میں معتکفین کا اندراج اور روزانہ حاضری لگانا۔
- ✽ نصاب ”قرآن سیکھے (حصہ 1)“ سے جدول کے مطابق روزانہ ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سنانا۔
- ✽ پڑھنے والوں کی صلاحیت کے مطابق مدنی قاعدے کے سبق کی ترکیب کرنا۔
- ✽ روزانہ ہر طالب علم سے انفرادی طور پر سبق سننا۔
- ✽ نصاب ”قرآن سیکھے (حصہ 1)“ سے جدول کے مطابق معنی کی تبدیلی کی مثالیں بیان کر کے تجوید کی اہمیت اور درست قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دلانا۔
- نوٹ: معتکفین کو مکمل مدنی قاعدہ، آخری 10 سورتیں اور مکمل اذکارِ نماز یاد کروانے کی کوشش کرنا۔

2.7. احکام نماز کا حلقہ

- ✽ احکام نماز کا حلقہ دارالافتاء اہلسنت کے مفتی صاحب / مدنی اسلامی بھائی / کوئی اہل اسلامی بھائی ہی لگائیں۔

3. انتظامی امور

3.1. لائٹ

- ✽ اعتکاف میں تعداد اور ضرورت کے مطابق لائٹس کا انتظام کرنا اور اعتکاف ہال / مسجد میں لائٹس لگانا اور ایونٹ کے بعد اتارنا۔
- ✽ پاور مینجمنٹ اور سیفٹی چیک کرنا تاکہ کوئی الیکٹریکل مسئلہ نہ ہو۔
- ✽ ٹیکنیکل خرابیوں کو فوری حل کرنا (لائٹ یا کیبل خراب ہونے پر متبادل کا انتظام رکھنا)

- الیکٹریکل اوزار کٹ (Instrumental Kit) درست حالت میں مکمل رکھنا۔
- لائٹ بند ہونے کی صورت میں جزیٹریا UPS کے ذریعے فوراً بجلی کی فراہمی یقینی بنانا۔

3.2. ساؤنڈ

- افطار اجتماع، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے، اعتکاف کے حلقوں اور لائیو ایونٹس وغیرہ میں ساؤنڈ سسٹم متوازن رکھنا۔ اگر ساؤنڈ سسٹم میں کوئی تکنیکی خرابی ہو تو اسے فوری حل کرنا (ساؤنڈ سے متعلقہ ایمر جنسی سامان کا انتظام رکھنا مثلاً مائیک وغیرہ)۔
- معتکفین اور دیگر عاشقان رسول کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اضافی ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرنا۔

3.3. جوتا اسٹینڈ

- معتکفین اور نمازیوں کے جوتوں کی حفاظت کے لیے ریکس، ٹوکن اور جوتا اسٹینڈ کا پیشگی انتظام کرنا۔
- نمازیوں کو جوتا رکھنے پر اس کا ٹوکن نمبر دینا اور واپسی پر ٹوکن وصول کر کے جوتا دینا۔
- جوتا اسٹینڈ کے اوقات کار اور کسی مسئلے کی صورت میں رابطہ وغیرہ کے لئے پرنٹ شدہ تحریر چسپاں کرنا۔
- جوتا پہننے اور اتارنے کے لئے بیٹھنے کا مناسب انتظام کرنا۔
- جوتا اسٹینڈ سے مسجد تک میٹ بچھانا۔

3.4. خریداری

- اعتکاف نگران کے تصدیق شدہ فارم کے مطابق سامان کی خریداری کرنا اور سامان متعلقہ ذمہ دار کے حوالے کرنا۔

- اعتکاف کے لیے جو سامان آرڈر پر تیار کروایا جاتا ہے اس کا ڈیلی فالو اپ کرنا اور متعلقہ ذمہ دار کو اپڈیٹ کرنا۔
- خریدی گئی اشیاء کی میعاد (Expiry Date) چیک کرنا۔
- خریدے ہوئے سامان کے بل کے مطابق GRN ("Goods Receipt Note") بنوانا اور متعلقہ ذمہ دار کو اپڈیٹ کرنا۔
- تمام بل مع GRN اعتکاف فنانس ذمہ دار کو جمع کروانا۔

3.5. صفائی ستھرائی

- مسجد کے کارپٹ / دریاں، لائٹ، پنکھے، شیشے، چھت، سیڑھیوں اور کھڑکیوں کی صفائی کروانا، کمی کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم الامور کی مدد سے خادین کی تربیت کرنا۔
- وضو خانہ، واش رومز کی صفائی چیک کرنا، کمی کی صورت میں متعلقہ اسلامی بھائی کو تفہیم کرنا۔
- وضو خانوں پر صابن رکھوانا اور ضرور تاگیزر (Geysers) چلوانا۔
- معتکفین کے سامان اور بستروں کی حفاظت کے ساتھ متعلقہ جگہ پر ترتیب لگوانا۔
- سحری اور افطاری کے لیے برتن وغیرہ دھلوانا اور ڈسپوز ایبل Disposable دسترخوان کا اہتمام کر کے متعلقہ جگہ پر رکھوانا نیز کچن کی صفائی ستھرائی کروانا۔
- کھانے والی جگہ کی اچھی طرح صفائی کروانا۔
- واٹر پلانٹ / واٹر کولر کو روزانہ چیک کرنا اور ان کی صفائی کروانا۔
- خادین کے لباس وغیرہ کی صفائی ستھرائی اور معتکفین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش

آنے کے حوالے سے تربیت کرنا۔

3.6. تیاری طعام

اس مجلس کے ذمہ داران کے لیے یہ رسالہ پڑھنا بہت فائدے مند ہو گا۔ ”کھانے اور کھلانے کے بارے میں سوال جواب“۔ (یہ رسالہ دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ

www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے)

معتکفین اور اعتکاف سے متعلقہ مجالس کی تعداد کے مطابق سحری اور افطاری کے لیے کھانا بروقت تیار کروانا۔

کچن میں کام کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو شیف کیپ، گلووز وغیرہ پہننے کا پابند کرنا۔

گوشت، دودھ، اور دیگر حساس اشیاء کو مناسب درجہ حرارت پر محفوظ کرنا۔

روزانہ سحری و افطاری کے کھانے کا معیار (Standard) چیک کرنا اور کمی بیشی کی صورت میں متعلقہ ذمہ دار کو اطلاع / تنبیہ / تفہیم کرنا۔

کھانا بچ جانے کی صورت میں اُسے محفوظ کرنا۔

کچن میں برتن اور دیگر سامان باحفاظت رکھوانا۔

کھانے پینے والی اشیاء (Grocery Items) کا مکمل ریکارڈ بنانا اور روزانہ اپڈیٹ کرنا۔

کھانے کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات (Complaints) کا بروقت حل کرنا۔

3.7. فراہمی طعام

اس مجلس کے ذمہ داران کے لیے یہ رسالہ پڑھنا بہت فائدے مند ہو گا۔ ”کھانے اور کھلانے کے بارے میں سوال جواب“۔

- تیار شدہ کھانا تیاری طعام مجلس سے بروقت وصول کرنا۔
- سحری اور افطاری کے لیے بروقت دسترخوان اور برتن وغیرہ لگوانا اور کھانا طے شدہ ٹائم پر معتکفین کو پیش کرنا۔
- افطاری کے سامان اور پانی کی پیشگی تیاری کروانا۔
- معتکفین کو ترتیب کے ساتھ حلقہ وائر دسترخوان پر بٹھانا اور نظم و ضبط کے ساتھ کھانا تقسیم کرنا۔
- برتنوں کا مکمل ریکارڈ بنانا اور اسے اپڈیٹ کرنا نیز خراب سامان علیحدہ کرنا۔

3.8. پینا فلیکس اور کارڈ مجلس

- مسجد کے آداب اور اعتکاف کی شرعی احتیاطوں پر مشتمل طے شدہ مدنی پھولوں کے پینا فلیکس لگوانا۔
- اعتکاف کے حلقوں کے نمبر لگانا۔
- رمضان کے بعد تمام پینا فلیکس بحفاظت اتار کر اسٹور میں رکھوانا۔

3.9. اعتکاف فنانس

- رسالہ ”چندہ کرنے کی تنظیمی و شرعی احتیاطیں“ اور کتاب ”چندے کے بارے میں سوال جواب“ پڑھنا بے حد مفید رہے گا۔
- اعتکاف کی آمدن اور اخراجات کا حساب رکھنا۔
- رمضان اعتکاف میں شرکاء کی تعداد کے مطابق اخراجات کا بجٹ بنانا۔
- معتکفین اور ایک ماہ اعتکاف کے اراکین مجالس کو عطیات جمع کرنے کی ترغیب دلانا۔
- معتکفین میں فطرہ و زکوٰۃ وصولی مہم چلانا۔

- ❁ اعتکاف کے اراکین مجالس کی ای رسید آئی ڈی بنوانا۔
- ❁ مینول رسید بکس تقسیم کرنا اور اس کا مکمل ریکارڈ بنانا۔
- ❁ اعتکاف کے لئے جمع ہونے والے عطیات کی ڈی ایم بنانا اور ڈونر کو رسید پیش کرنا۔
- ❁ 29 رمضان کو ذمہ داران و عاشقانِ رسول سے رسید بکس مع عطیات وصول کرنا۔
- ❁ اعتکاف میں ہونے والی تمام خریداری کا مکمل حساب لینا اور کلیئر کرنا۔

3.10. گم شدہ سامان و امانت کا وٹنر

- ❁ اعتکاف میں ملنے والا سامان بحفاظت محفوظ کرنا۔
- ❁ ملنے والے سامان کا ریکارڈ بنانا۔ (کس کے ذریعے سے؟ کیا سامان ملا؟ کس تاریخ کو اور کہاں سے ملا وغیرہ)
- ❁ ملنے والے سامان کے حوالے سے مناسب وقت پر معتکفین کو آگاہ کرنا۔
- ❁ جس کا سامان ہو اُس کی مکمل تصدیق کرنے کے بعد سامان واپس کرنا۔ (مثلاً کسی کی گھڑی گم ہوئی تھی تو کس کمپنی کی تھی؟ کس کلر کی تھی وغیرہ پوچھنا)۔
- ❁ ہر امانت کا اندراج کرنا۔
- ❁ امانت جمع کروانے والے کا نام، رابطہ نمبر، امانت کی نوعیت، مقدار اور جمع کروانے کی تاریخ درج کرنا۔
- ❁ امانت جمع کروانے والے کو رسید دینا (جس پر امانت کی تفصیلات درج ہوں)۔
- ❁ امانت کا وٹنر پر صرف متعلقہ افراد کو ہی آنے کی اجازت دینا۔
- ❁ امانت کا وٹنر پر بیٹھنے والے ذمہ دار کا مکمل ریکارڈ بنانا (مثلاً نام، رابطہ نمبر، آئی ڈی کارڈ وغیرہ لینا)۔

● وصول کنندہ سے رسید پر دستخط کروانا، تاریخ درج کرنا اور اس کارڈ کا ریکارڈ اپنے پاس بھی محفوظ رکھنا۔

● امانت کی درستی اور حالت کو چیک کر کے حوالے کرنا۔

3.11. روحانی علاج

● اعتکاف کے مقام پر روحانی علاج کا بستہ لگوانا / لگانا۔

● روحانی علاج کے بستے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا اور کمی بیشی دور کروانا۔

● معتکفین کو روحانی علاج ایپ، ویب سائٹ، گوگل لوکیشنز، واٹس ایپ نمبر، استخارہ، کاٹ وغیرہ کا تعارف پیش کرنا۔

● معتکفین میں سے بیعت یا طالب ہونے والوں کے نام جمع کرنا اور ان کو بیعت نامے / مکتوبات پہنچانا نیز بیعت / طالب ہونے کی موبائل سروس سے آگاہ کرنا۔ (کسی اجازت یافتہ کے ذریعے ہاتھوں ہاتھ بیعت کی ترکیب کی جاسکتی ہے، بیعت کا مکتوب چاہے مجلس کی طرف سے بعد میں بھیج دیا جائے)۔

3.12. ڈسپنری / میڈیکل سہولت

● اعتکاف کے مقام پر معتکفین کی خیر خواہی کے لیے عارضی میڈیکل کیمپ / ڈسپنری کی سہولت کا انتظام کرنا۔

● میڈیکل کے انتظامات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینا، مسائل بروقت حل کرنا۔

● مریضوں کے لئے ضروری میڈیسن کی فراہمی یقینی بنانا۔

● ڈسپنری کے اوقات کار کسی نمایاں جگہ پر لکھ کر لگانا۔

3.13. خوشبو مجلس

- رسالہ: ”مسجد میں خوشبودار رکھیے“ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ (یہ رسالہ دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے)۔
- مسجد اور مدنی مذاکرے میں اعتکاف نگران کی مشاورت سے خوشبو مثلاً لوبان وغیرہ سُنگانا۔

3.14. مکتبۃ المدینہ اسٹال

- اعتکاف کے مقام پر مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگوانا۔ (اسٹال خارج مسجد میں لگایا جائے کیونکہ مسجد و فناء مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں)۔
- اسٹال سے متعلقہ مسائل بروقت حل کروانا۔
- اسٹال پر بالخصوص اعتکاف سے متعلقہ کتابیں، رسائل اور دیگر ضروری سامان کی بروقت فراہمی یقینی بنانا۔

3.15. کینٹین

- کینٹین کے اوقات کار کسی نمایاں جگہ پر لکھ کر لگانا۔ (نماز و تراویح کے اوقات میں کینٹین بند رکھی جائے)۔
- اعتکاف کے مقام پر معتکفین کی سہولت کے لیے شرعی و تنظیمی رہنمائی کے ساتھ کینٹین کا انتظام کرنا۔
- مناسب قیمت اور کھانے پینے والی معیاری اشیاء کا جائزہ لینا، بالخصوص Expiry Date و قفاوقنا چیک کرنا۔
- صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا۔
- کینٹین والے کا معتکفین سے اچھے انداز میں بات چیت کرنا اور حتی الامکان ان کی

ضروریات پوری کرنا۔

3.16. مسجد سے متعلقہ انتظامی امور

اعتکاف والی مسجد کے سامان (کارپٹ، دریاں، کرسیاں اور دیگر سامان وغیرہ) کی حفاظت کرنا/ کروانا۔

معتکفین کا سامان منظم انداز کے ساتھ طے شدہ جگہ پر رکھوانا، بالخصوص جماعت کے وقت اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے (تاکہ کوئی صف منقطع نہ ہو)۔

مسجد کی کرسیاں اور سترہ وغیرہ اپنی جگہ پر رکھوانا۔

فیضان مدینہ (مسجد) کے اندر، باہر، مسجد، بیسمنٹ اور گیلری وغیرہ کی لائٹس اور پنکھے چیک کرنا نیز فضول چلتی لائٹس اور پنکھے بند کروانا۔

سحری و افطاری مسجد (عین مسجد) میں ہونے کی صورت میں مسجد کے آداب کا بہت زیادہ خیال کرتے ہوئے سحری و افطاری کروانا۔

موسم کے مطابق نمازیوں اور معتکفین کے لیے مناسب انتظامات (اے سی / ہیٹر وغیرہ) کرنا۔

مسجد کے کارپٹ، لائٹ، پنکھے، شیشے اور کھڑکیوں کی صفائی چیک کرنا اور ضرورتاً صفائی کروانا۔

مخصوص شعبہ جات مثلاً روحانی علاج، اسپیشل پرسنز، مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ کے بستے مسجد میں لگنے کی صورت میں ان کا متعلقہ ضروری سامان (ٹیبیل، پینا فلیکس وغیرہ) ترتیب کے ساتھ رکھوانا۔

مسجد کے اندر جوتوں کے لیے رکھے گئے ریکس متعلقہ جگہ پر صاف کروا کر رکھوانا۔

• وقتاً فوقتاً مسجد کی قرآن پاک والی الماریوں (Cupboards) کا جائزہ لینا۔

• غیر متعلقہ تراجم و تفاسیر، شہید اوراق و غیرہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے سپرد کرنا۔

3.17. تحفظ رزق

• اس مجلس کے ذمہ داران کو یہ رسائل پڑھنا انتہائی معاون و مددگار ہوگا، کھانے

کا اسلامی طریقہ، کھانے کی 5 سنہتیں، کھانے میں برکت پانے کے طریقے۔

• اعتکاف میں کھانا ضائع ہونے سے بچانا اور اضافی کھانا بیچ جانے کی صورت میں محفوظ

کرنا / دوبارہ استعمال میں لانا۔

• مختلفین، خادمین و دیگر ذمہ داران کو کھانا ضائع ہونے سے بچانے کا ذہن دینا، کھانے

کے آداب بیان کرنا

• بچا ہوا کھانا شرعی رہنمائی کے ساتھ درست مصرف میں استعمال کروانا۔

4. قافلہ

4.1. استقبالیہ

• اعتکاف کے لئے آنے والے عاشقانِ رسول کو خوش آمدید کہنے کے لیے کسی مناسب

مقام پر خوش آمدید کا پینا فلیکس لگانا۔

• اعتکاف سے متعلقہ ضروری معلومات فراہم کرنا۔

• اعتکاف کرنے والے عاشقانِ رسول کو ڈیٹا انٹری فارم دینا۔

• فارم پُر کرنے کے حوالے سے ان کی معاونت کرنا۔

• مختلفین کے کارڈ بنوانا۔

4.2. تصدیق مجلس

❁ اعتکاف میں آنے والے اسلامی بھائیوں کا داخلہ فارم چیک کرنا، تصدیق کرنا، ضرورتاً متعلقہ ذمہ داران سے رابطہ کرنا۔

❁ اعتکاف میں دائمی مریض، کم عمر، بزرگ، کرمنل کیسز وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنا۔

4.3. نیت مجلس

❁ مختلف اوقات میں معتکفین سے مبلغ / جدول نگران / علاقائی نگران / حلقہ نگران کے بیان و ملاقات و انفرادی کوشش کے ذریعے اچھی نیتیں کرنے والوں کے نام اور نیت لکھنا۔

❁ معتکفین کو 3 دن / 12 دن / ایک ماہ / 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کے لئے تیار کرنا۔

❁ تیار ہونے والوں کی نیتیں نیت ایپ میں اپڈیٹ کروانا۔ (نام، نمبر، ایڈریس اور نیتوں کے ساتھ مکمل ریکارڈ محفوظ رکھنا)۔

4.4. دارالسنہ

❁ عاشقانِ رسول کی چاند رات کے قافلوں سے متعلق رہنمائی کرنا۔

❁ شعبہ قافلہ کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی معلومات فراہم کرنا۔

❁ قافلوں میں سفر کے لئے تیار ہونے والوں کی نیت ایپ میں انٹری کرنا۔

❁ چاند رات کے قافلوں کی سمتیں، امیر قافلہ / معاون امیر قافلہ متعین کرنا۔

❁ ضروری سامان اور سمتوں کے مطابق سفر کے حوالے سے رہنمائی کرنا۔

4.5. چاند رات قافلہ

❁ چاند رات کے قافلوں میں سفر کے لئے اعتکاف میں انفرادی کوشش کرنا، نیتیں کروانا

اور نام و رابطہ نمبر لکھنا۔

● نیت کرنے والوں کی ضروری معلومات (نام، نمبر، ایڈریس، نیت وغیرہ) اپنے پاس محفوظ رکھنا۔

● قافلے میں سفر کی نیت کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کروانا اور فالو اپ کرتے رہنا۔

5. سیکورٹی مجلس

5.1. سیکورٹی

● اس مجلس کے تمام ذمہ داران کیلئے رسالہ ”احترام مسلم“ پڑھنا انتہائی فائدے مند ہوگا۔ ان شاء اللہ الکریم

● اعتکاف میں تعداد کے مطابق سیکورٹی ڈیوٹی کرنے والوں کا جدول / شفٹیں بنانا۔

(Time to Time Schedule)

● رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کے دوران ضرورتاً حفاظتی اقدامات کروانا۔

● معتکفین کی تعداد کے مطابق حفاظتی عملہ مقرر کرنا۔

● سیکورٹی کو مضبوط بنانے کیلئے دیگر شعبہ جات (فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ وغیرہ) سے معاونت لینا۔

● سیکورٹی سے متعلقہ تمام مسائل شرعی و تنظیمی رہنمائی سے حل کرنا / کروانا۔

● سیکورٹی کے مسائل و معاملات پر حفاظتی عملہ کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کرنا۔

● سیکورٹی سے متعلقہ تمام سامان (واک تھرو گیٹ (Walk Through Gate) اور

میٹل ڈیٹیکٹر (Metal Detector) وغیرہ) کا انتظام کرنا۔

5.2. پارکنگ

● اجتماعی اعتکاف کے لئے پارکنگ ایریا کا انتخاب کرنا۔

- پارکنگ میں موجود ہر گاڑی / رکشہ کا ٹوکن دینا۔
- گاڑی / سائیکل / موٹر سائیکل پارکنگ میں ترتیب سے لگوانا۔
- داخلی و خارجی راستے الگ الگ ہونا زیادہ بہتر ہے۔

5.3. سی سی ٹی وی

- سیکیورٹی اقدامات کے لئے اعتکاف کے مقام کا سروے کرنا اور اس کے مطابق سیکیورٹی کیمروں کا اہتمام کرنا۔
- سی سی ٹی وی کیمروں کی سمت (Direction)، تعداد و دیگر اقدامات کے حوالے سے متعلقہ نگران سے مشاورت کرنا۔
- ضرورتاً سیکیورٹی سے متعلقہ سامان (CCTV کیمرے و دیگر لوازمات وغیرہ) کی خریداری کے لئے مشاورت کرنا اور تنظیمی، شرعی و قانونی اجازت لینا۔
- سی سی ٹی وی کیمروں کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول روم کا انتظام کرنا۔
- اجتماعی اعتکاف کے دوران کیمروں کی مدد سے چیکنگ کے لیے آپریٹر کا ہر وقت موجود رکھنا۔
- داخلی اور خارجی راستوں کی شناخت کرنا۔
- سی سی ٹی وی کیمروں، سیکیورٹی گارڈز، اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا۔
- کسی بھی کمزور پہلو (Weak Points) کا تجزیہ کرنا۔
- سیکیورٹی کیمروں، موشن سینسرز اور دیگر برقی نگرانی کے نظام کو چیک کرنا۔
- کسی بھی ممکنہ خطرے کی قبل از وقت اطلاع کرنا اور اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔

6. خیر خواہ مجلس

6.1. خیر خواہی

- مجلس خیر خواہ، شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے سپرد ہے۔
- خیر خواہی کے لئے الگ الگ مقامات (عین مسجد، صحن مسجد، وضو خانہ، کینٹین، بیسمنٹ اور حلقہ وغیرہ) پر خیر خواہ مقرر کرنا۔
- اذان ہوتے ہی مختلفین کو بیدار کرنا۔
- مسجد میں شور مچانے، وضو خانے اور کینٹین پر بے جا بیٹھے، نیز ادھر ادھر گھومنے سے منع کر کے نرمی و شفقت کیساتھ اعتکاف کے جدول میں شرکت کروانا۔
- نمازِ جماعت، تراویح، بیانات، مدنی مذاکروں، تربیتی حلقوں اور صلوٰۃ التسلیح وغیرہ میں شرکت کی نرمی و حکمتِ عملی سے دعوت دینا۔
- خیر خواہ مجلس کے عاشقانِ رسول کی 2 شفٹوں (فجر تا عشاء اور عشاء تا اشراق و چاشت) میں تقسیم کاری کرنا۔ (اوقاتِ کار میں ضرورتاً تبدیلی بھی ہو سکتی ہے)
- پانچوں نمازوں، نمازِ جمعہ، تراویح اور دیگر نوافل میں صفیں مکمل کروانا۔
- صفوں کے درمیان سامان ہو تو اس کو سائڈ پر کرنا نیز شرعی تقاضوں کے مطابق خالی جگہ پُر کروانا۔
- وقتاً فوقتاً صف مکمل کرنے کی فضیلت اور جان بوجھ کر صف میں جگہ خالی چھوڑنے کی وعید سناتے رہنا۔

7. خود کفالت

7.1. خود کفالت

- اعتکاف کے مجموعی متوقع اخراجات کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق اخراجات پورا

کرنے کی پلاننگ کرنا۔

ذیلی مجلس کاروزانہ کی بنیاد پر مدنی مشورہ کرنا۔

اعتکاف کے مقام پر ڈونرز کو وزٹ کروانا اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے

آگاہ کرنا اور اعتکاف کے اخراجات کیلئے عطیات دینے کا ذہن دینا۔

معتکفین کو اپنے عطیات (زکوٰۃ، فطرہ، صدقات وغیرہ) دعوت اسلامی کو جمع کروانے کی

ترغیب دلانا۔

معتکفین کو اپنے گھروں میں ”گھریلو صدقہ بکس“ رکھنے کا ذہن دینا۔

7.2. لنگر رضویہ

لنگر رضویہ (سحری و افطاری) کے لئے ضروری اشیاء (آٹا، گھی، چینی، چاول، دالیں وغیرہ) کا

پیشگی انتظام کرنا۔

سبزی منڈی میں وزٹ کرنا اور اہل محبت دکاندار و مالکان سے سحری افطاری کے لئے

سبزیوں کی ترکیب کرنا۔

اعتکاف کے لیے پھلوں (کیلا، سیب اور کھجور وغیرہ) کی ترکیب کرنا۔

عشتر ذمہ دار کے ذریعے بڑے زمینداروں سے ملاقات کرنا اور ان سے گندم، چاول،

دودھ وغیرہ لگوانا۔

گوشت فروش سے ملاقات کرنا اور معتکفین کے لئے گوشت کی ترکیب کرنا۔

لنگر رضویہ کی مد میں حاصل ہونے والے عطیات اور دیگر اشیاء کا مکمل ریکارڈ بنانا۔

لنگر رضویہ کی مد میں حاصل ہونے والے تمام عطیات و دیگر اشیاء کا حساب فنانس

ڈیپارٹمنٹ کو دینا۔

7.3. ڈونیشن کاؤنٹر

- اعتکاف کے مقام پر خارج مسجد یا مسجد کے قریب کسی مقام پر ڈونیشن سیل ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے ڈونیشن کاؤنٹر لگوانا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر کے لئے پیشگی ذمہ دار کا تقرر کرنا، ضرورتاً اجیر رکھنے کی صورت میں نگران مجلس ڈونیشن سیل کی مشاورت سے لوازمات مکمل کرنا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر کے لئے ضروری سامان کی فراہمی یقینی بنانا اور اس کی حفاظت کرنا۔
- روزانہ کی بنیاد پر ڈونیشن کاؤنٹر / ڈونیشن بکس کا جائزہ لینا۔
- حتی الامکان ڈونیشن کاؤنٹر پر آنے والے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات بالخصوص قریبی اعتکاف کے متعلق معلومات فراہم کرنا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر پر عطیات بڑھانے کی تراکیب کروانا۔ (اس کے لیے قریبی دوکانداروں اور اہل علاقہ سے ملاقات و انفرادی کوشش وغیرہ کرنا)
- ڈونیشن کاؤنٹر سے متعلقہ مسائل بروقت حل کروانا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر پر موصول ہونے والے عطیات بروقت فنانس میں جمع کروانا اور روزانہ حساب کلیئر کروانا۔

8. رابطہ برائے شخصیات

- پولیس، سیاست دان، سرکاری اداروں سے وابستہ افراد / آفیسرز و دیگر بااثر شخصیات سے ملاقات و انفرادی کوشش کے ذریعے انہیں رمضان اعتکاف کروانا۔
- شعبہ رابطہ برائے شخصیات سے وابستہ سرکاری افسران و شخصیات کو مختلف اوقات میں پیشگی اطلاع کے ساتھ اعتکاف کا وزٹ کروانا (بالخصوص سیکھنے سکھانے کے حلقوں کے

دوران، افطار اجتماع، اجتماعِ شبِ قدر وغیرہ میں۔

- ❁ فائز اینڈ سیفٹی نظام بنانا اور اس پر عملدرآمد کروانا۔
- ❁ کسی ایمر جنسی / ہنگامی صورت میں فوراً متعلقہ اداروں کے ذریعے حل کرنا۔

9. ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ

- نوٹ:** مجلس ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ کے تحت 3 ذیلی مجالس بنائی جائیں گی۔
- (1) افطار اجتماعات (2) لائو مدنی مذاکرے (3) رمضان کے ہفتہ وار اجتماعات۔

9.1. افطار اجتماع:

- ❁ افطار اجتماع کے انتظامات کروانا۔
- ❁ جن شعبہ جات کی افطار اجتماع میں شرکت ہو، انہیں کم و بیش 3 دن پہلے یاد دہانی کروانا۔
- ❁ افطار اجتماع میں آنے والوں کی متعلقہ شعبہ ذمہ دار سے تعداد لینا اور مجلس لنگرِ رضویہ کو پیشگی اطلاع کرنا۔ (تاکہ اس تعداد کے مطابق افطاری و کھانے کا اہتمام کیا جاسکے)۔
- ❁ شعبہ جات کی شخصیات (ڈاکٹرز، پروفیسرز، سرکاری افسران وغیرہ) کے مطابق ان کے بیٹھنے و افطاری کا پیشگی انتظام کروانا۔
- ❁ تحائف میں تقسیم رسائل / تسبیح کاؤنٹر وغیرہ کا پیشگی انتظام کروانا۔ شعبہ جات کے تعارف پر مشتمل اپڈیٹ بروشر تقسیم کرنا۔
- ❁ افطار اجتماع میں شعبہ جات کے بستوں کے مقام انتظامی امور کے ذریعے فکس کروانا۔

9.2. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ

- ❁ معتکفین کو اجتماعی لائو مدنی مذاکرہ دکھانے کا اہتمام کرنا۔

1 ماہ اعتکاف کے مقامات پر ابتدائی 19 دنوں میں خارج مسجد ویڈیو (Video) مدنی مذاکروں اور آخری عشرے میں صرف آڈیو (Audio) مدنی مذاکروں میں معتکفین کی شرکت کروانا۔

موسم کے مطابق ضروری انتظامات مکمل کرنا۔ مثلاً بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ، لائٹ، LCD، UPS اور انٹرنیٹ وغیرہ۔

اجتماعی مدنی مذاکرے میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران و عاشقانِ رسول کی شرکت کروانا۔

معتکفین سے سوالات ریکارڈ کروا کر شعبہ مدنی چینل کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مجلس مدنی چینل کو بھیجنا۔

حلقہ نگران کے ذریعے معتکفین کی روزانہ کے مدنی مذاکروں کی کارکردگی لینا۔

9.3. ہفتہ وار اجتماع

معتکفین کو ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروانا۔

ہفتہ وار اجتماع میں حلقہ وائز اسلامی بھائیوں کو بیٹھنے کی ترغیب دلانا۔

انتظامی مجلس کے ذریعے ضرورتاً کرسیوں کا انتظام کروانا۔

معتکفین کے ذریعے ان کے والدین، بھائی، سرپرست و دیگر رشتہ دار عاشقانِ رسول کی شرکت کروانے کی کوشش کرنا اور اسکی کارکردگی لینا۔

ہفتہ وار اجتماع میں شعبہ جات (مثلاً قافلہ، اصلاحِ اعمال، شعبہ تعلیم، مدرسۃ المدینہ بالغان، روحانی علاج وغیرہ) کے اسٹالز (Stall) مخصوص جگہ پر لگوانا۔

10. مجلس کارکردگی

10.1. اعتکاف سے متعلقہ کارکردگیاں

- اعتکاف میں ہونے والے مختلف کاموں کی کارکردگی مثلاً (مدنی مذاکرے، تربیتی حلقے، مختلف دینی تحریکیں، تہجد، اشراق و چاشت، 26 ویں شریف کے ایصالِ ثواب وغیرہ) اعتکاف نگران سے وصول کرنا۔
- معتکفین سے جمع ہونے والے رمضان عطیات (زکوٰۃ، فطرہ، صدقاتِ نافلہ وغیرہ) کی کارکردگی جمع کرنا۔
- معتکفین سے جو جو کارکردگیاں لینا طے ہیں، تمام کارکردگیاں لینا۔
- اعتکاف کی برکت سے دعوتِ اسلامی کے تعلیمی اداروں (جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی وغیرہ) میں داخلہ لینے والوں کی اعتکاف نگران سے کارکردگی لینا۔
- تمام کارکردگیاں اپنے متعلقہ نگران کو بروقت پیش کرنا۔

10.2. فیڈبیک

- اعتکاف سے متعلق شکایات و تجاویز وصول کرنے کے لئے نمایاں مقام پر فیڈبیک بکس رکھوانا۔
- اعتکاف حلقہ نگرانوں کو فیڈبیک فارم دے کر پُر کرنے کے متعلق رہنمائی کرنا۔
- موصول ہونے والے مسائل و تجاویز کی لسٹ تیار کرنا۔
- شکایات و تجاویز کا جائزہ لے کر حل کرنا/ کروانا۔
- مسائل کے حل اور تجاویز پر عمل درآمد کے حوالے سے اعتکاف نگران و ضرورتاً اعتکاف مجالس سے مشاورت کرنا۔

• مسائل حل کرنے کے بعد ضرورتاً متعلقہ عاشقان رسول کو آگاہ کرنا۔ (جس نے شکایت کی ہو / تجویز دی ہو)

10.3. 26 ویں کی نیتیں

• 26 رمضان یوم ولادت امیر اہلسنت (مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ) کے موقع پر حلقوں میں 26 ویں شریف کے حوالے سے آگاہی دینا۔

• 26 ویں شریف کے طے شدہ نیت فارم پر موجود نیتیں معتکفین کو پڑھ کر سنانا اور عاشقان رسول کو مزید اچھی اچھی نیتیں کروانا۔

• حلقہ نگران کے ذریعے معتکفین کی نیتیں وصول کرنا اور اعتکاف نگران کو 24 رمضان المبارک تک پیش کرنا۔ اعتکاف نگران 24 رمضان کو ہی یہ نیتیں مجلس کارکردگی کو جمع کروادیں۔

10.4. ڈیٹا انٹری

• 1 ماہ / آخری عشرہ اعتکاف کرنے والوں کو کارڈ جاری کرنے کے لئے اعتکاف نگران سے معتکفین کی تعداد، نام، نمبر، ایڈریس وغیرہ لینا۔

• معتکفین کی تعداد کے مطابق ڈیٹا انٹری سے متعلقہ سامان (کمپیوٹر، ٹیبل، انٹرنیٹ، کرسی، پرنٹر، لیمینیشن مشین، کٹر وغیرہ) کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانا۔

• سوفٹ ویئر میں انٹری سے پہلے تمام تر لوازمات مثلاً اصل شناختی کارڈ / والد / سرپرست کے شناختی کارڈ کی کاپی، سٹی / ٹاؤن / تحصیل / یوسی نگران کی تصدیق، شناختی کارڈ کے مطابق فارم پر درج کی گئی معلومات اور تصدیق مجلس کے دستخط وغیرہ کو چیک کرنا۔

- ❁ تصدیق مجلس سے ملنے والے ریکارڈ کے مطابق مکمل معلومات سوفٹ ویئر میں درست اور مکمل اندراج کرنا۔
- ❁ تمام معتکفین کو ترتیب و حلقہ وائر کارڈ فراہم کرنا۔
- ❁ ڈیٹا انٹری کے دوران آنے والے مسائل سے اپنے متعلقہ نگران کو بروقت مطلع کرنا۔

ایک ماہ اعتکاف جدول ایک نظر میں

(1 ماہ اعتکاف / آخری عشرہ اعتکاف 1446ھ / 2025ء)

نماز تہجد و سحری: ہر اعتکاف کی تعداد کے مطابق ختم سحری کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تہجد و سحری۔

بعدِ فجر: تفسیر سُننے سنانے کا حلقہ، کم از کم 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر صراط الجنان (7 منٹ تفسیر + 5 منٹ درس) بیان (26 منٹ) شجرہ شریف کے اشعار اور اُس کے اوراد (7 منٹ) رسالہ نیکیوں کے ثوابت (5 منٹ) دُعا یاد کرنے کا حلقہ (10 منٹ) اشراق و چاشت وقفہ آرام۔

وقفہ آرام کے بعد: تلاوت و نعت (12 منٹ) مدرسۃ المدینہ بالغان (38 منٹ) اذکار نماز (20 منٹ)

نمازِ ظہر کے بعد: اجتماعی حلقے میں درس (7 منٹ) احکام نماز کا حلقہ (45 منٹ) گناہوں کے عذابات (5 منٹ) سنتیں اور آداب (20 منٹ) 12 دینی کام (15 منٹ) / 12 دینی کام کتاب شعبہ جات اور ایپ کا تعارف (5 منٹ) درس سکھانے اور درس دلوانے کا حلقہ (10 منٹ) نیک اعمال کا جائزہ (5 منٹ) کارکردگی جمع کرنا (5 منٹ) وقفہ آرام: اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل

بعدِ عصر: مدنی مذاکرہ / 25 منٹ بیان اور دُعاے افطار

بعدِ مغرب: سورہ ہملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ تراویح: مدنی مذاکرہ جفت راتوں میں نعت خوانی طاق راتوں میں صلوة التسمیح

توجہ فرمائیں: 1 ماہ اعتکاف میں پہلے 19 دن مسجد و فنائے مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر لائو مدنی مذاکرہ اور آخری عشرے میں صرف آڈیو مدنی مذاکرہ۔

اعتکاف جدول کے لئے رہنما کتب و رسائل

نوٹ: کتب و رسائل کے ناموں کے ساتھ ڈاؤنلوڈ لنک بھی ہیں، کتاب کے نام پر کلک کرنے سے کتاب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی۔

تفسیر صراط الجنان جلد اول	صراط الجنان جلد دوم	صراط الجنان جلد سوم
صراط الجنان جلد چہارم	صراط الجنان جلد پنجم	صراط الجنان جلد ششم
صراط الجنان جلد نہم	صراط الجنان جلد دہم	فیضانِ سنت
فیضانِ نماز	فیضانِ رمضان	گفتگو کے آداب
فیضانِ بیاناتِ عطار	نیکی کی دعوت	غیبت کی تباہ کاریاں
12 دینی کام	قرآن سیکھنے حصہ 1	مدنی قاعدہ
گناہوں کے عذابات (حصہ 1)	گناہوں کے عذابات (حصہ 2)	نیکیوں کے ثوابات
وضو کا طریقہ	غسل کا طریقہ	مسافر کی نماز
قضا نمازوں کا طریقہ	نماز کا طریقہ	فیضانِ اذان
فاتحہ اور ایصالِ ثواب کا طریقہ	فیضانِ جمعہ	میت کے غسل و کفن کا طریقہ
ثواب بڑھانے کے نسخے	کپڑے پاک کرنے کا طریقہ	12 دینی کاموں کی ترغیبات

مردے کی بے بسی	مردے کے صدمے	جوشِ ایمانی
پراسرار خزانہ	میں سدھرنا چاہتا ہوں	ظلم کا انجام
شجرہٴ قادریہ رضویہ عطاریہ	پیکرِ شرم و حیا	بیاناتِ غوثِ اعظم
تندرست رہنے کے فارمولے	انمول ہیرے	میٹھے بول
نیک بننے کا نسخہ	احترامِ مسلم	غصے کا علاج
امام حسن کی 30 حکایات	وضو اور سائنس	کراماتِ شیر خدا
جنت کی نعمتیں	حسینی دُولہا	نمازِ جنازہ کا طریقہ
نمازِ عید کا طریقہ	کرسی پر نماز	550 سنتیں اور آداب
منہ کی صفائی کے فائدے	دُنیا کی محبت	پیارے نبی کی پیاری آل
ناراضیوں کا علاج	جو انی کیسے گزاریں؟	ماں باپ کے متعلق واقعات
ابو جہل کی موت	ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔	

ایک ماہ اعتکاف کا تفصیلی جدول (1) ﴿رمضان المبارک﴾

تفسیر سنتے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: سورہ فاتحہ، آیت 1 تا 3 (7 منٹ)</p> <p>درس: مسجد کے فضائل (فیضانِ نماز ص 235 تا 238) (5 منٹ)</p> <p>بیان: بیاناتِ غوثِ اعظم (ہفتہ وار رسالہ نمبر 373) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: ثواب بڑھانے کے نسخے (ص 1 تا 7 اور ص 35 تا 36) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>افطار کے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات حصہ 2، ص 27) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
<p>دورانیہ: 12 منٹ</p>	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 1 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 19 تا 20) غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 17 / سورہ فاتحہ) (دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>تبکیر تحریمہ، ثناء (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
<p>(دورانیہ: 7 منٹ)</p>	

(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
رسالہ: وضو کا طریقہ (پڈیٹ) ص 6 تا 11 (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
گمراہی (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 6) (دورانیہ: 5 منٹ)	
سلام کی 11 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 30) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
فجر کے لئے جگانا (کتاب 12 دینی کام، ص 12 تا 23) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
جامعۃ المدینہ (بوائز) + ٹائٹ کلاسز (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: پیغام فنا (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 235) (دورانیہ: 25 منٹ)	

بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
بعد عشاء مدنی مذاکرہ
بعد تراویح مدنی مذاکرہ

﴿2﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
تفسیر: سورہ فاتحہ، آیت 4 تا 7 (7 منٹ)	
درس: مسجد کے فضائل (فیضانِ نماز ص 239 تا 242) (5 منٹ)	
بیان: دیدارِ مصطفیٰ اور اس کی برکتیں (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 9) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: نماز کا ثواب (ص 3 تا 8) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
سوتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 6) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	دورانیہ: 12 منٹ
	(12:00 تا 12:12)
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 2 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 25 تا 26)	
غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 17 / سورہ اِخْلَاص) (دورانیہ: 38 منٹ)	

01:10 تا 12:51	اذکارِ نماز
تعویذ و تسمیہ (دورانیہ: 20 منٹ)	
بجریٰ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
02:45 تا 02:00	احکامِ نماز
رسالہ: غسل کا طریقہ (اپڈیٹ) ص 3 تا 6 (دورانیہ: 45 منٹ)	
03:10 تا 02:46	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
نماز قضا کرنا (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 13) (دورانیہ: 5 منٹ)	
ہاتھ ملانے کی 14 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 32) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
03:25 تا 03:11	12 دینی کام
فجر کے لیے جگانے کے دنیوی فوائد (کتاب 12 دینی کام، ص 23 تا 30) (دورانیہ: 15 منٹ)	
3:30 تا 3:26	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
جامعۃ المدینہ (گرنز) (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:40 تا 03:31	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
03:45 تا 03:41	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:50 تا 03:46	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	

وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: منہ کی صفائی کے فائدے (ہفتہ وار رسالہ نمبر 379) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿3﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 1 سورۃ البقرہ، آیت 67 تا 70 (7 منٹ)	
درس: 14 مدنی پھول (فیضانِ نماز ص 243 تا 246) (5 منٹ)	
بیان: خاتونِ جنت کی شان و عظمت (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic	
(Speeches app) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: وقت پر نماز پڑھنے کا ثواب (ص 9 تا 14) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعد فجر
نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 9)	
(دورانیہ: 10 منٹ)	

(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 3 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (قرآن سیکھے حصہ 1، ص 33) غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 19 / سورۃ فاتحہ) (دورانیہ: 38 منٹ)	
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
سورۃ فاتحہ (دورانیہ: 20 منٹ)	
بجدرِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:00 تا 02:45)	احکامِ نماز
تیمم کا بیان (غسل کا طریقہ ص 20) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
خودکشی (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 25) (دورانیہ: 5 منٹ) + ناخن کاٹنے کی 10 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 50) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:11 تا 03:25)	12 دینی کام
تفسیر سننے سنانے کا حلقہ (کتاب 12 دینی کام، ص 45 تا 54) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:26 تا 3:30)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
مدرسۃ المدینہ بوائز + گریز + شارٹ ٹائم + رہائشی + گلی گلی مدرسۃ المدینہ (دورانیہ: 5 منٹ)	

(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: قبر کی ہولناکیاں (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 303) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	
﴿4﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 1 سورۃ البقرہ، آیت 71 تا 75 (7 منٹ)	
درس: تکلیف کا سبب (فیضانِ نماز ص 249 تا 252) (5 منٹ)	

<p>بیان: رسالہ: گانوں کے 35 کفریہ اشعار (26 منٹ) اور دو وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ) رسالہ نیکیوں کے ثوابات: اذان و اقامت اور ان کا جواب دینے کا ثواب (ص 15 تا 19) (5 منٹ)</p>	
بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
<p>بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 12) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالٹان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
<p>سبق نمبر 4 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 39 تا 41) غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 17 / سورۃ فاتحہ) (دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
سورۃ اخلاص (دورانیہ: 20 منٹ)	
بعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:00 تا 02:45)	احکامِ نماز
نماز کی 6 شرائط (نماز کا طریقہ ص 14 تا 22) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
اسراف (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 27) (دورانیہ: 5 منٹ) + چلنے کے بارے میں	

15 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 3) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:11 تا 03:25)
تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے معمولات کی وضاحت (کتاب 12 دینی کام، ص 54 تا 66) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:26 تا 3:30)
دارالمدینہ اسلامک سکول / کالج بوائز + گرلز / فیضان اسلامک اسکول + دارالمدینہ یونیورسٹی (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:31 تا 03:40)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:41 تا 03:45)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:46 تا 03:50)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / انظار اجتماع	بعد عصر
بیان: گانوں کی تباہ کاریاں (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 325) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	

بعدِ عشاءِ مدنی مذاکرہ
بعدِ تراویحِ مدنی مذاکرہ

﴿5﴾ رمضان المبارک

تفسیر سنئے سنئے کا حلقہ	بعدِ فجر
تفسیر: پارہ 1 سورۃ البقرہ، آیت 124 تا 126 (7 منٹ)	
درس: احکام روزہ (فیضانِ رمضان ص 71 تا 74) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: انمول ہیرے (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب (ص 20 تا 26) (5 منٹ)	

دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 15)	
(دورانیہ: 10 منٹ)	

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 5 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 44 تا 45)	
غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 25 / سورۃ نساء) (دورانیہ: 38 منٹ)	

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
-------------	------------------

رکوع و سجود کی تسبیحات (دورانیہ: 20 منٹ)

درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکام نماز	(02:45 تا 02:00)
نماز کے 7 فرائض (نماز کا طریقہ ص 22 تا 32) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
حسد (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 30) (دورانیہ: 5 منٹ) + جوتے پہننے کے 7 آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 6) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
درس (کتاب 12 دینی کام، ص 88 تا 99) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
فیضانِ اسلام (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	

بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: شراب کی بوتل (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 345) (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
	بعد تراویح مدنی مذاکرہ

﴿6﴾ رمضان المبارک

بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 2 سورۃ البقرہ، آیت 142 تا 143 (7 منٹ)	
درس: احکام روزہ (فیضانِ رمضان ص 76 تا 79) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: میٹھے بول (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب (ص 26 تا 29) (5 منٹ)	
بعد فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
کھانے سے پہلے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 18) (دورانیہ: 10 منٹ)	
	تلاوت و نعت
	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 6 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 52 تا 53)	

غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 25 / سورہ لیس) (دورانیہ: 38 منٹ)	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
تشہد (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
نماز کا طریقہ (نماز کا طریقہ ص 8 تا 13) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
شراب (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 33) (دورانیہ: 5 منٹ) + بیٹھنے کی 18 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 8) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
مسجد درس کے مدنی پھول (کتاب 12 دینی کام، ص 100 تا 105) + درس دینے کا پریکٹیکل کروایا جائے (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
فیضان آن لائن اکیڈمی (بوائز + گریڈ) (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	

(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: مُردے کی بے بسی (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	
﴿7﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 3 سورۃ البقرہ، آیت 258 تا 260 (7 منٹ)	
درس: جنتی دروازہ (فیضانِ رمضان ص 84 تا 88) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: نیک بننے کا نسخہ (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: صفیں دُرست کرنے کا ثواب (ص 30 تا 34) (5 منٹ)	
بعد فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
کھانے کے بعد کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 21) (دورانیہ: 10 منٹ)	

(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 7 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 59 تا 61) غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 32 / سورہٴ خلاص) (دورانیہ: 38 منٹ)	
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
درود ابراہیمی (دورانیہ: 20 منٹ)	
بجدرِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:00 تا 02:45)	احکامِ نماز
رسالہ نمازِ جنازہ کا طریقہ (ص 1 تا 12) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
سود (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 36) (دورانیہ: 5 منٹ) + گھر میں آنے جانے کی 12 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 11) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:11 تا 03:25)	12 دینی کام
چوک درس کے 9 نوائے (کتاب 12 دینی کام، ص 120 تا 127) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:26 تا 3:30)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
FGRF (دورانیہ: 5 منٹ)	

(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: دُنیا کی محبت (ہفتہ وار رسالہ نمبر 355) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	
﴿8﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 3 سورۃ البقرہ، آیت 261 تا 263 (7 منٹ)	
درس: روزے کی نیت کے 20 مدنی پھول (فیضانِ رمضان ص 101 تا 105) (5 منٹ)	

<p>بیان: رسالہ: تندرست رہنے کے فارمولے (ہفتہ وار رسالہ نمبر 239) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: نماز جمعہ کا ثواب (ص 34 تا 38) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>گھر سے نکلنے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 24) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
<p>دورانیہ: 12 منٹ</p>	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 8 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 67 تا 69)</p> <p>غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 32 / سورہ زمر) (دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>دعائے ماثورہ و سلام (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
<p>(دورانیہ: 7 منٹ)</p>	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
<p>رسالہ: مسافر کی نماز (ص 1 تا 15) (دورانیہ: 45 منٹ)</p>	
گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب	(02:46 تا 03:10)
<p>رشوت (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 39) (دورانیہ: 5 منٹ) + پڑوسی کے بارے میں</p> <p>15 سنیتیں اور آداب (550 سنیتیں اور آداب، ص 13) (دورانیہ: 20-25 منٹ)</p>	

12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
گھر درس (کتاب 12 دینی کام، ص 135 تا 143) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
روحانی علاج + ایپ (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: رسالہ: سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿9﴾ رمضان المبارک

تفسیر سنتے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 3 سورة البقرہ، آیت 264 تا 266 (7 منٹ)</p> <p>درس: سحری کی اجازت (فیضانِ رمضان ص 107 تا 110) (5 منٹ)</p> <p>بیان: رسالہ: احترامِ مسلم (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: نمازِ جنازہ کا ثواب (ص 38 تا 43) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>دودھ پینے کے بعد کی دُعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 26) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 9 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 75 تا 76)</p> <p>غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 32 / سورہ ضحیٰ) (دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
دعائے قنوت (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
رسالہ: فیضانِ اذان (ص 4 تا 14) (دورانیہ: 45 منٹ)	

(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
جادو (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 42) (دورانیہ: 5 منٹ) + پانی پینے کی 13 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 16) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
مدرسۃ المدینہ بالغان (کتاب 12 دینی کام، ص 159 تا 170) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
خدام المساجد والمدارس المدینہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: پُر اسرار خزانہ (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	

بعدِ عشاءِ مدنی مذاکرہ
بعدِ تراویحِ مدنی مذاکرہ

﴿10﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 3 سورۃ البقرہ، آیت 267 تا 272 (7 منٹ)</p> <p>درس: افطار کا بیان (فیضانِ رمضان ص 113 تا 116) (5 منٹ)</p> <p>بیان: فیضانِ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic speeches app) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا ثواب (ص 44 تا 49) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>آئینہ دیکھتے وقت کی دُعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 29) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 10 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 82 تا 83)</p> <p>غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 39 / سورۃ رعد) (دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
(ان الفاظ کی درست ادائیگی: ان شاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر)	

(دورانیہ: 20 منٹ)	
بِعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
نماز توڑنے والی باتیں (نماز کا طریقہ ص 47 تا 54) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
جھوٹ (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 45) (دورانیہ: 5 منٹ) + کھانے کی 32 سنتیں اور آداب، 1-16 (550 سنتیں اور آداب، ص 18) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
گلوکار امام بن گیا (کتاب 12 دینی کام، ص 171 تا 180) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
شعبہ کفن و دفن + ایپ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	

وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: رسالہ: میں سُدھرنا چاہتا ہوں (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿11﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت 31 تا 32 (7 منٹ)	
درس: روزہ توڑنے والی 14 چیزیں (فیضانِ رمضان ص 131 تا 134) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: غُصے کا علاج (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار اور اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: مسجد آباد کرنے کا ثواب (ص 49 تا 54) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعد فجر
کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 32)	
(دورانیہ: 10 منٹ)	

(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 11 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 88 تا 89) غلط قرآن پڑھنے کی مثال (ص 52 / سورہ نکاح) (دورانیہ: 38 منٹ)	
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
ایمانِ مجمل (دورانیہ: 20 منٹ)	
بجدرِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:00 تا 02:45)	احکامِ نماز
رسالہ: فاتحہ اور ایصالِ ثواب کا طریقہ (ص 12 سے آخر تک) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب
ماں باپ کی نافرمانی (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 52) (دورانیہ: 5 منٹ) + کھانے کی 32 سنیتیں اور آداب، 17 تا 32 (550 سنیتیں اور آداب، ص 20) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:11 تا 03:25)	12 دینی کام
ہفتہ وار اجتماع (کتاب 12 دینی کام، ص 209 تا 217) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:26 تا 3:30)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
دارالافتاء اہلسنت (دورانیہ: 5 منٹ)	

(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ظلم کا انجام (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
	بعد تراویح مدنی مذاکرہ
﴿12﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت 45 تا 49 (7 منٹ)	
درس: روزہ نہ ٹوٹنے کے 21 احکام (فیضانِ رمضان ص 135 تا 138) (5 منٹ)	

<p>بیان: تابوتِ سکینہ، برکتوں کا خزینہ (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 71) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: دُعا مانگنے کا ثواب (ص 54 تا 58) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>شکریہ ادا کرنے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 35) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
<p>دورانیہ: 12 منٹ</p>	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 12 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 95 تا 96)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>ایمان مفصل (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
<p>(دورانیہ: 7 منٹ)</p>	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
<p>سجدہ سہو کا بیان (نماز کا طریقہ ص 84 تا 97) (دورانیہ: 45 منٹ)</p>	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(02:46 تا 03:10)
<p>غیبت (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 55) (دورانیہ: 5 منٹ) + مہمان نوازی کی 30 سنتیں</p> <p>اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 23) (دورانیہ: 20-25 منٹ)</p>	

(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
دعوتِ اسلامی اور اجتماعات کا اہتمام (کتاب 12 دینی کام، ص 217 تا 226) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
شعبہ مکتبۃ المدینہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: پیارے نبی کی پیاری آل (ہفتہ وار رسالہ نمبر 361) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿13﴾ رمضان المبارک

تفسیر سنتے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 4 سورہ ال عمران، آیت 190 تا 194 (7 منٹ)</p> <p>درس: تراویح کے 35 مدنی پھول (فیضانِ رمضان ص 174 تا 179) (5 منٹ)</p> <p>بیان: حسد (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 417) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: دُرودِ پاک کا ثواب (ص 58 تا 63) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>ادائے قرض کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 38) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
<p>دورانیہ: 12 منٹ</p>	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 13 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 101 تا 102)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>سورہ قارعہ (آیت 1 تا 5) (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
<p>(دورانیہ: 7 منٹ)</p>	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
<p>نماز کے مکروہاتِ تحریمہ (نماز کا طریقہ ص 55 تا 64) (دورانیہ: 45 منٹ)</p>	

(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
چغلی (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 59) (دورانیہ: 5 منٹ)	
صلہ رحمی کی 13 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 27) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
ہفتہ وار مدنی مذاکرہ (کتاب 12 دینی کام، ص 291 تا 300) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ناراضیوں کا علاج (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	

بعدِ عشاءِ مدنی مذاکرہ	
بعدِ تراویحِ مدنی مذاکرہ	
﴿14﴾ رمضان المبارک	
بعدِ فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
<p>تفسیر: پارہ 7 سورۃ المائدہ، آیت 27 تا 32 (7 منٹ)</p> <p>درس: گفتگو کے آداب (ص 13 تا 16) (5 منٹ)</p> <p>بیان: دل خوش کرنے کے طریقے (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 131) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: تلاوتِ قرآن کا ثواب (ص 63 تا 68) (5 منٹ)</p>	
بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
علم میں اضافے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 41) (دورانیہ: 10 منٹ)	
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالٹان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 14 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 107 تا 108) (دورانیہ: 38 منٹ)	
(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
سورہ قارعہ (آیت 6 تا 11) (دورانیہ: 20 منٹ)	

بَعْدِ ظَهْر	دَرَس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
نماز کے واجبات (نماز کا طریقہ ص 32 تا 34) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
بُہتان (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 62) (دورانیہ: 5 منٹ) + بات چیت کرنے کی 12 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 34) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
دیگر اسلافِ کرام کا طرزِ عمل (کتاب 12 دینی کام، ص 10 تا 32) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
اسلامک ریسرچ سینٹر (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	

بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: جوانی کیسے گزاریں؟ (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿15﴾ رمضان المبارک

بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 7 سورۃ الانعام، آیت 76 تا 79 (7 منٹ) درس: گفتگو کے آداب (ص 18 تا 21) (5 منٹ) بیان: رسالہ: امام حسن کی 30 حکایات (26 منٹ) اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ) رسالہ نیکیوں کے ثوابات: قرآن کریم درست سیکھنے کا ثواب (ص 68 تا 72) (5 منٹ)	
بعد فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 44) (دورانیہ: 10 منٹ)	
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	

(12:50 تا 12:12)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
(114 تا 113 ص 1، حصہ 1، قرآن سیکھے حصہ 1، ص 113 تا 114)	سبق نمبر 15 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 113 تا 114)
(دورانیہ: 38 منٹ)	
(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
	سورہ تکاثر (آیت 1 تا 4) (دورانیہ: 20 منٹ)
بعدِ ظہر	درس
	(دورانیہ: 7 منٹ)
(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
	رسالہ: فیضانِ جمعہ (ص 12 تا 25) (دورانیہ: 45 منٹ)
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
	تجسس / عیب جوئی (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 65) (دورانیہ: 5 منٹ) + چھینک کے متعلق 17 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 36) (دورانیہ: 20-25 منٹ)
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
	علاقائی دورہ (کتاب 12 دینی کام، ص 342 تا 350) (دورانیہ: 15 منٹ)
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
	شعبہ اوقات الصلوٰۃ + Prayer time App + مساجد میں Digital Clock (دورانیہ: 5 منٹ)
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
	فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ماں باپ کے متعلق واقعات (ہفتہ وار رسالہ نمبر 305) (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	
﴿16﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 9 سورۃ الاعراف: آیت 132 تا 137 (7 منٹ)	
درس: گفتگو کے آداب (ص 22 تا 25) (5 منٹ)	
بیان: دُعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 195) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: حج کرنے کا ثواب (72 تا 76) (5 منٹ)	

بِعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
(دورانیہ: 10 منٹ)	تیل لگاتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 48)
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
(دورانیہ: 38 منٹ)	سبق نمبر 16 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 120 تا 122)
(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
سورۃ تکاثر (آیت 5 تا 8) (دورانیہ: 20 منٹ)	
بِعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
نماز کی سنتیں (نماز کا طریقہ 35 تا 38) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
تمسخر / مذاق اڑانا (گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 68) (دورانیہ: 5 منٹ)	
سُرمہ لگانے کی 4 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 38) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
علاقائی دورے کا طریقہ (کتاب 12 دینی کام، ص 361 تا 368) (دورانیہ: 15 منٹ)	

(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
	شعبہ تحفظِ اوراقِ مقدسہ (دورانیہ: 5 منٹ)
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
	فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
	حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
	اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
	(دورانیہ: 45 منٹ)
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
	بیان: بُرے خاتمے کا خوف (ہفتہ وار اجتماع کا بیان دیکھئے islamic Speeches app)
	(دورانیہ: 25 منٹ)
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
	بعد تراویح مدنی مذاکرہ

﴿17﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 9 سورۃ الاعراف: آیت 175 تا 177 (7 منٹ)</p> <p>درس: گفتگو کے آداب (ص 29 تا 32) (5 منٹ)</p> <p>بیان: شانِ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic Speeches app) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: قربانی کرنے کا ثواب (77 تا 81) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>دُعائے مصطفیٰ (دین پر قائم رہنے کی دعا) (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 51)</p> <p>(دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 17 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 128 تا 129)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(12:51 تا 01:10)
سورہ عصر (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر

(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
نماز کی سنتیں (نماز کا طریقہ ص 39 تا 44) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 2) (دورانیہ: 5 منٹ)	
سونے، جاگنے کی 15 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 38) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
ایک دن راہِ خدا میں (کتاب 12 دینی کام، ص 380 تا 388) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
کنز المدارس بورڈ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	

بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ابو جہل کی موت (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	
﴿18﴾ رمضان المبارک	
بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62 تا 64 (7 منٹ) درس: گفتگو کے آداب (ص 35 تا 38) (5 منٹ) بیان: رسالہ: وضو اور سائنس (26 منٹ) اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ) رسالہ نیکیوں کے ثوابات: زکوٰۃ دینے کا ثواب (ص 82 تا 87) (5 منٹ)	
بعد فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 55) (دورانیہ: 10 منٹ)	
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)

سبق نمبر 18 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 135 تا 136) (دورانیہ: 38 منٹ)	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
سورہ ہمزہ (آیت 1 تا 4) (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
نماز کے 17 مستحبات (نماز کا طریقہ ص 45 تا 47) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
بدشگونی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 5) (دورانیہ: 5 منٹ) + عماسے کی 25 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 54) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
ایک دن راہِ خدا میں گزارنے کے چند نکات (کتاب 12 دینی کام، ص 388 تا 394) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
شعبہ امام مساجد + امامت کورس + شعبہ فیضانِ مدینہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)

حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: رسالہ: قیامت کا امتحان (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿19﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 13، سورہ یوسف، آیت 93 تا 96 (7 منٹ)	
درس: (شب قدر) طاق راتوں میں ڈھونڈو (فیضانِ رمضان ص 194 تا 197) (5 منٹ)	
بیان: حُسنِ اخلاق (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 507) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: اعتکاف کا ثواب (ص 87 تا 92) (5 منٹ)	

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
	مُرغ کی بانگ سُن کر پڑھنے کی دُعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 58) (دورانیہ: 10 منٹ)
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
	دورانیہ: 12 منٹ
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
	سبق نمبر 19 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 142 تا 144) (دورانیہ: 38 منٹ)
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
	سورہ ہُزْمَہ (آیت 5 تا 9) (دورانیہ: 20 منٹ)
بعدِ ظہر	درس
	(دورانیہ: 7 منٹ)
(02:00 تا 02:45)	احکامِ نماز
	تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ (رسالہ: میت کے غسل و کفن کا طریقہ: ص 3 تا 6) کفن پہنانے کی فضیلت (ص 9 تا 12) (دورانیہ: 45 منٹ)
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنئیں اور آداب
	نسب بدلنا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 8) (دورانیہ: 5 منٹ) + قبر و دفن کی 22 سنئیں اور آداب (550 سنئیں اور آداب، ص 83) (دورانیہ: 20-25 منٹ)
(03:11 تا 03:25)	12 دینی کام
	ہفتہ وار رسالہ مطالعہ (کتاب 12 دینی کام، ص 415 تا 423) (دورانیہ: 15 منٹ)

(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
مدنی چینل اردو + انگلش + بنگلہ + بزرگوں کا مدنی چینل + بچوں کا مدنی چینل (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / انظار اجتماع
بیان: رسالہ: سب سے آخری نبی (ہفتہ وار رسالہ) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿20﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 23 تا 25 (7 منٹ)</p> <p>درس: فیضانِ اعتکاف (فیضانِ رمضان ص 227 تا 230) (5 منٹ)</p> <p>بیان: کیا تنگدستی بھی نعمت ہے؟ (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 549) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابت: سحری و افطاری کا ثواب (ص 92 تا 99) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 64)</p> <p>(دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 20 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 149 تا 150)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
سورہ قدر مکمل (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	

(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
قضا نمازوں کا طریقہ (ص 1 تا 13) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
دھوکہ دہی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 12) (دورانیہ: 5 منٹ) + لباس کے بارے میں 17 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 51) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
کتابیں پڑھنے سے محبت کے 12 واقعات (کتاب 12 دینی کام، ص 423 تا 429) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
سوشل میڈیا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کار کردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کار کردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: فیضانِ اعتکاف (فیضانِ رمضان ص 227 تا 230) + سنتِ اعتکاف کی نیت (فیضان)	

رمضان ص 233 تا 236 (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ	

﴿21﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 26 تا 30 (7 منٹ)	
درس: شب قدر بدلتی رہتی ہے (فیضانِ رمضان ص 199 تا 202) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: کراماتِ شیر خدا (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: ذکر اللہ کرنے کا ثواب (ص 99 تا 103) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعد فجر
زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 71)	
(دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 1 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 156 تا 158)	
(دورانیہ: 38 منٹ)	

(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
ایک ماہ والے: سورہٴ فیل۔ آخری عشرے والے: تکبیر تحریمہ، ثناء (دورانیہ: 20 منٹ)	
بِعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
ایک ماہ والے: وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات (رسالہ: وضو کا طریقہ (اپڈیٹ)، ص 12 تا 15)۔ آخری عشرے والے: رسالہ: وضو کا طریقہ (اپڈیٹ)، ص 6 تا 11 (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
ظلم (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 15) (دورانیہ: 5 منٹ) عیادت کی 33 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 72) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
مطالعہ کے دینی و دنیوی فوائد (کتاب 12 دینی کام، ص 430 تا 443) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
6 دینی کاموں والے شعبہ جات (قافلہ، اصلاح اعمال، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی کورسز، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ) (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	

(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: آخرت کی تیاری (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 437) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التَّسْبِيحِ باجماعت	

﴿22﴾ رمضان المبارک

بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 31 تا 33 (7 منٹ)	
درس: مکروہاتِ روزہ (فیضانِ رمضان ص 138 تا 141) (5 منٹ)	
بیان: ایثار (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 463) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: سنت پر عمل کا ثواب (ص 103 تا 107) (5 منٹ)	

دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
نیالباس پہنتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 74) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 2 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 163 تا 164)	
(دورانیہ: 38 منٹ)	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
ایک ماہ والے: سورہ قریش - آخری عشرے والے: تعوذ و تسمیہ (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
ایک ماہ والے: تیمم کا طریقہ (رسالہ غسل کا طریقہ ص 20) اور زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام رسالہ: وضو کا طریقہ (اپڈیٹ) (ص 20 تا 26) - آخری عشرے والے: رسالہ: غسل کا طریقہ (اپڈیٹ) ص 3 تا 6 - تیمم کا بیان (غسل کا طریقہ ص 20)	
(دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب	(02:46 تا 03:10)
فرض علم نہ سیکھنا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 18) (دورانیہ: 5 منٹ)	
سفر کی 35 سنیتیں اور آداب (550 سنیتیں اور آداب، ص 68) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	

(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
نیک اعمال (کتاب 12 دینی کام، ص 453 تا 461) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
Dawate islami.net+Org (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: اصلاح معاشرہ (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 529) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی	

﴿23﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 15، سورۃ الکہف، آیت 9 تا 12 (7 منٹ)</p> <p>درس: غیبت کی تعریف (غیبت کی تباہ کاریاں ص 30 تا 33) (5 منٹ)</p> <p>بیان: اخلاص (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 487) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: شکر کا ثواب (ص 108 تا 112) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>ایمان پر خاتمے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 82) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 3 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 170 تا 171)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>ایک ماہ والے: سورۃ ماعون۔ آخری عشرے والے: سورۃ فاتحہ (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	

(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
ایک ماہ والے: غسل کا طریقہ ص 3 اور قرآن پڑھنے یا چھونے کے 10 مسائل (رسالہ: غسل کا طریقہ (اپڈیٹ)، ص 15 تا 20)۔ آخری عشرے والے: قضا نمازوں کا طریقہ (ص 11 تا 14 اور 17 تا 20) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
مایوسی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 22) (دورانیہ: 5 منٹ) + انگوتھی کے بارے میں 19 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 57) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
حساب سے پہلے حساب کی تیاری (کتاب 12 دینی کام، ص 462 تا 473) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
تفاسیر: صراط الجنان + تعلیم القرآن + معرفۃ القرآن (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	

بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: قبر کی ہولناکیاں (ہفتہ وار رسالہ نمبر 327) (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقت
	بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
	بعد تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت

﴿24﴾ رمضان المبارک

بعد فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 16، سورہ مریم، آیت 54 تا 56 (7 منٹ)	
درس: مُردار خور جہنمی (نبیت کی تباہ کاریاں ص 45 تا 48) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: جنت کی نعمتیں (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: توبہ کا ثواب (ص 113 تا 118) (5 منٹ)	
بعد فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
سواری کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 4) (دورانیہ: 10 منٹ)	
(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 4 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 176 تا 177)	

(دورانیہ: 38 منٹ)	
01:10 تا 12:51	اذکارِ نماز
ایک ماہ والے: سورہ کوثر۔ آخری عشرے والے: سورہ اخلاص (دورانیہ: 20 منٹ)	
بعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
02:45 تا 02:00	احکامِ نماز
ایک ماہ والے: رسالہ: کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، ص 29 تا 34۔ آخری عشرے والے: نماز کی 6 شرائط (نماز کا طریقہ ص 14 تا 22) (دورانیہ: 45 منٹ)	
03:10 تا 02:46	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
جوا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 25) (دورانیہ: 5 منٹ) + کفن کی 16 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 77) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
03:25 تا 03:11	12 دینی کام
تافلہ (کتاب 12 دینی کام، ص 505 تا 515) (دورانیہ: 15 منٹ)	
3:30 تا 3:26	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
Islam For Ever + Kids Land (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:40 تا 03:31	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
03:45 تا 03:41	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	

کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: یوم ولادت امیر اہلسنت کا بیان (1446ھ/2025ء) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی	

﴿25﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 26، سورہ حُجُرَات، آیت 7 تا 10 (7 منٹ)	
درس: حُوریں پانے کا عمل (نبیت کی تباہ کاریاں ص 101 تا 104) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: حُسینی ذُولہا (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: معاف کرنے کا ثواب (ص 119 تا 122) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعد فجر
عیادت کرتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 24) (دورانیہ: 10 منٹ)	

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 5 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 182 تا 183) (دورانیہ: 38 منٹ)	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
ایک ماہ والے: سورہ کا فرون۔ آخری عشرے والے: رکوع و سجد کی تسبیحات (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
ایک ماہ والے: نماز کے مکروہاتِ تنزیہ (نماز کا طریقہ ص 65 تا 71) آخری عشرے والے: نماز کے 7 فرائض (نماز کا طریقہ ص 22 تا 32) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(02:46 تا 03:10)
حرام مال (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 28) (دورانیہ: 5 منٹ) + قبرستانِ حاضری کی 21 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 87) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:11 تا 03:25)
تافلے میں سفر کے 14 فضائل و فوائد (کتاب 12 دینی کام، ص 515 تا 527) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:26 تا 3:30)

دعوتِ اسلامی کا تعارف (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:31 تا 03:40	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
03:41 تا 03:45	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:46 تا 03:50	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
03:50 تا 03:54	وقفہ آرام
(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)	
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ہر صحابی نبی جنتی جنتی (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التَّسْبِيحِ باجماعت	

﴿26﴾ رمضان المبارک

بعد فجر	تفسیر سنئے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 28، سورہ حشر، آیت 21 تا 24 (7 منٹ)	

<p>درس: خاموشی کی فضیلت (گفتگو کے آداب، ص 79 تا 82) (5 منٹ)</p> <p>بیان: رسالہ: پیکرِ شرم و حیا (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: صلح کروانے کا ثواب (ص 122 تا 125) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>شبِ قدر کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 37) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
<p>دورانیہ: 12 منٹ</p>	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 6 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 188 تا 189)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>ایک ماہ والے: سورہ نصر - آخری عشرے والے: تشہد (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
<p>(دورانیہ: 7 منٹ)</p>	
احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
<p>ایک ماہ والے: کرسی پر نماز (نماز کا طریقہ ص 104 تا 115)۔ آخری عشرے والے: نماز کا طریقہ (نماز کا طریقہ ص 8 تا 13) + Practical (دورانیہ: 45 منٹ)</p>	

(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
ناحق یتیم کا مال کھانا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 31) (دورانیہ: 5 منٹ) + تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کی 19 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 43) (20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
مدنی کورسز (کتاب 12 دینی کام، ص 564 تا 571) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
پاکستان مشاورت آفس (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: راہِ خدا میں سفر کے فضائل (ہفتہ وار اجتماع کا بیان) دیکھئے islamic Speeches (دورانیہ: 25 منٹ) (app)	

بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
بعد عشاء مدنی مذاکرہ
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی

﴿27﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
تفسیر: پارہ 30، سورہ ضحیٰ، آیت 1 تا 5 (7 منٹ)	
درس: زبان کی آفتیں (گفتگو کے آداب، ص 104 تا 107) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: جوشِ ایمانی (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب (ص 26 تا 29) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
کُفر و نقر سے پناہ کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 31) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 7 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 195 تا 197)	
(دورانیہ: 38 منٹ)	

(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
ایک ماہ والے: سورہ لہب۔ آخری عشرے والے: درود ابراہیمی (دورانیہ: 20 منٹ)	
بعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
ایک ماہ والے: قضا نمازوں کا طریقہ (ص 12 تا 20)۔ آخری عشرے والے: رسالہ نمازِ جنازہ کا طریقہ (ص 1 تا 12) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب
چوری (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 34) (دورانیہ: 5 منٹ)	
مسواک کی 22 سنیتیں اور آداب (550 سنیتیں اور آداب، ص 47) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
مدنی کورسز (کتاب 12 دینی کام، ص 572 تا 581) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
انٹرنیشنل ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	

کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: ایمان کی حفاظت (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic Speeches app)	
(دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت	

﴿28﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 30، سورہ ضحیٰ، آیت 6 تا 11 (7 منٹ)	
درس: خوفِ خدا سے وفات (فیضانِ رمضان ص 216 تا 219) (5 منٹ)	
بیان: بُری صحبت کا وبال (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic Speeches app) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: صفیں دُرست کرنے کا ثواب (ص 30 تا 34) (5 منٹ)	

دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
دُرودِ شفاعت (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 59) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
سبق نمبر 8 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 203 تا 204)	(دورانیہ: 38 منٹ)
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
ایک ماہ والے: سورۃ اخلاص۔ آخری عشرے والے: دعائے ماثورہ و سلام (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
ایک ماہ والے: نماز کا عملی طریقہ (Practical)۔ آخری عشرے والے: رسالہ: مسافر کی نماز (ص 1 تا 15) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
ناپ تول میں خیانت (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 40) (دورانیہ: 5 منٹ) + زلفوں اور سر کے بالوں کی 22 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 40) (20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:11 تا 03:25)
معلوماتی سوالات (کتاب 12 دینی کام، ص 581 تا 592) (دورانیہ: 15 منٹ)	

(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
	حج و عمرہ + ایپ (دورانیہ: 5 منٹ)
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
	فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
	حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
	اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)
	وقفہ آرام
	(دورانیہ: 45 منٹ)
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
	بیان: جہنم کی وادی ویل کے حقدار کون؟ (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic speeches app) (دورانیہ: 25 منٹ)
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
	بعد تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی

﴿29﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>تفسیر: پارہ 30، سورہ قارعہ: مکمل سورت (7 منٹ)</p> <p>درس: الوداع ماہ رمضان (فیضانِ رمضان ص 207 تا 210) (5 منٹ)</p> <p>بیان: فیضانِ عید الفطر (فیضانِ رمضان ص 295 تا 310) (26 منٹ)</p> <p>اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)</p> <p>رسالہ نیکیوں کے ثوابات: نمازِ جمعہ کا ثواب (ص 34 تا 38) (5 منٹ)</p>	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
<p>وضو کے بعد کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 80) (دورانیہ: 10 منٹ)</p>	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	
مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
<p>سبق نمبر 9 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 210 تا 211)</p> <p>(دورانیہ: 38 منٹ)</p>	
اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
<p>ایک ماہ والے: سورہ نفلق۔ آخری عشرے والے: دعائے قنوت (دورانیہ: 20 منٹ)</p>	
درس	بعدِ ظہر
(دورانیہ: 7 منٹ)	

(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
ایک ماہ والے: رسالہ: نمازِ عید کا طریقہ (ص 1 تا 8) (پریکٹیکل بھی کروائیں) آخری عشرے والے: رسالہ: نمازِ عید کا طریقہ (ص 1 تا 8) (پریکٹیکل بھی کروائیں۔ (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
دیوثی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 60) (دورانیہ: 5 منٹ) عقیقے کے 25 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 59) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
12 دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں (نام اور ذمہ داری لکھی جائے) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کا مکمل تعارف + شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنوں کا ضمنی تعارف + فیضان صحابیات (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	

وقفہ آرام	(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع	بعد عصر
بیان: الوداع ماہ رمضان (کتاب فیضان رمضان ص 207 تا 214) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعد عشاء مدنی مذاکرہ	
بعد تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت	

﴿30﴾ رمضان المبارک

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعد فجر
تفسیر: پارہ 30 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس (7 منٹ)	
درس: کیا میری زندگی کا بھروسہ (فیضان رمضان ص 212 تا 216) (5 منٹ)	
بیان: فیضان عید الفطر (فیضان رمضان ص 311 تا 323) (26 منٹ)	
اورادو وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: ڈرو و پاک کا ثواب (ص 58 تا 63) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعد فجر
آب زم زم پیتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 83) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	

(12:50 تا 12:12)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 10 (مدنی قاعدہ) + آخری 10 سورتیں یاد کروائی جائیں (دورانیہ: 38 منٹ)	
(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
ایک ماہ والے: سورہ ناس۔ آخری عشرے والے: (ان الفاظ کی درست ادائیگی: ان شاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر) (دورانیہ: 20 منٹ)	
بعدِ ظہر	درس
(دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
ایک ماہ والے: جماعت کا بیان (رسالہ نماز کا طریقہ ص 72 تا 77) آخری عشرے والے: رسالہ: فیضانِ اذان (ص 4 تا 14) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنئیں اور آداب
بے پردگی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 63) (دورانیہ: 5 منٹ) یانی بینے کی 13 سنئیں اور آداب (550 سنئیں اور آداب، ص 16) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
12 دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں (نام اور ذمہ داری لکھی جائے) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
اسپیشل پرسنز (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	

(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذان عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعد عصر	بعد عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: الوداع ماہ رمضان (کتاب فیضان رمضان ص 214 تا 225) (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعد مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
بعد مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
	بعد عشاء مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی	

افطار اجتماع کا جدول (رمضان المبارک 1446ھ / 2025ء)

✿ پہلے 20 دن، 1 ماہ اعتکاف والے مقام پر اور بقیہ دن آخری عشرے کے اعتکاف والے مقامات پر بھی افطار اجتماع کی ترکیب کی جائے۔

✿ یاد رہے! شعبہ ذمہ داران شرکاء کی تعداد پیشگی متعلقہ انتظامی امور نگران کو کم از کم 7 دن قبل بتائیں تاکہ انتظامات بہتر انداز سے کیے جاسکیں۔

✿ رمضان اعتکاف کے جدول کے مطابق سیکھنے سکھانے کے حلقوں، مدنی مذاکروں میں بھی ان کی شرکت کروائی جائے تاکہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے۔

✿ نگران مجالس، اپنے صوبائی ذمہ داران کی مشاورت سے پیشگی جدول بنالیں کہ کن شخصیات / متعلقہ افراد کو کس مقام پر شرکت کروانی ہے۔

✿ مدنی مذاکرے کے لیے شعبے سے متعلق سوالات پیشگی ریکارڈ کر کے مجلس مدنی چینل کو بھیج دیے جائیں، اختتام پر تاثرات بھی لیے جائیں۔

✿ رمضان المبارک میں ہفتہ وار اجتماع بروز جمعہ، عصر تا مغرب ہوگا۔ بالخصوص جمعہ کے دن والے شعبہ جات زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے شعبے کے اجتماع کی تیاری فرمائیں۔

✿ صوبائی مشاورت کے نگران جدول میں ضرورتاً تبدیلی کر سکتے ہیں۔

✿ 27 ویں شب (اجتماع شب قدر) اور الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔ اہداف متعلقہ نگران مجلس طے کریں۔

✿ کوئی شعبہ ہفتہ وار یا روزانہ بھی آنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، مگر صوبائی مشاورت کے نگران کی پیشگی اجازت کے ساتھ۔ متعلقہ اعتکاف کے انتظامی امور

نگران کو کم از کم 3 دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے۔

✿ ڈویژن نگران اور ڈسٹرکٹ نگران متعلقہ ٹاؤن نگران / تحصیل نگران سے مشورہ

کر کے افطار اجتماع میں یوسیز کا جدول بنائیں اور صوبائی آفس میں جمع کروائیں۔

✿ اعتکاف نگران افطار اجتماع کی روزانہ کی کارکردگی متعلقہ ڈویژن کارکردگی ذمہ دار کو

جمع کروائیں۔

افطار اجتماع کا یومیہ جدول اور تیاری کا طریقہ

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
2 مارچ	اتوار	قافلہ

✿ شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور 2024ء میں قافلوں (12 ماہ، 1 ماہ، 12 دن، 3 دن) میں سفر کرنے والے تمام عاشقانِ رسول کو دعوت دیں اور شرکت کروائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
3 مارچ	پیر	روحانی علاج، مدنی کورسز + HR ڈیپارٹمنٹ

روحانی علاج: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مریضوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

مدنی کورسز: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور 2024ء میں مختلف کورسز کرنے والے اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں

HR: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو

دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
4 مارچ	منگل	ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اصلاح اعمال

ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران اور ہفتہ وار اجتماع کی مجلس خود بھی شرکت کرے اور اپنے جاننے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

اصلاح اعمال: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
5 مارچ	بدھ	شعبہ تعلیم، دارالمدینہ اسلامک سکول، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، دارالمدینہ کالج ویونیورسٹی

شعبہ تعلیم: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں نیز تعلیمی اداروں کے پروفیسرز، ٹیچرز، اسٹاف، اسٹوڈنٹس کو بھی لائیں۔

دارالمدینہ اسلامک سکول، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، دارالمدینہ کالج ویونیورسٹی: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران، اسٹاف، اسٹوڈنٹس، سرپرست صاحبان اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
6 مارچ	جمعرات	ڈونیشن سیل ڈیپارٹمنٹ، گھریلو صدقہ بکس، عطیات بکس، فنانس ڈیپارٹمنٹ

ڈونیشن سیل ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور ڈونرز کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

گھریلو صدقہ بکس: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے گھروں میں عطیات بکس رکھنے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عطیات بکس: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنی دکانوں پر عطیات بکس رکھنے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

فنانس ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور جاننے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
7 مارچ	جمعہ	رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ، فیضان مرشد ڈیپارٹمنٹ

رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز لاری اڈہ، گڈز ٹرانسپورٹ اڈہ، ریلوے اسٹیشن وغیرہ کے افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

فیضان مرشد ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور متعلقہ افراد کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
8 مارچ	ہفتہ	مدرسۃ المدینہ بالغان

شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مدرسۃ

المدینہ بالغان میں پڑھنے، پڑھانے والے تمام اسلامی بھائی شرکت کریں۔ بالخصوص مارکیٹ وغیرہ میں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہے انہیں بھی شرکت کروائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
9 مارچ	اتوار	شعبہ کفن و دفن، تحفظ اوراق مقدسہ

شعبہ کفن و دفن: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور گورکن، قبرستان کمیٹی نیز جن کے عزیز اقرباء کو کفن و دفن کی سہولت فراہم کی گئی، انہیں بھی شامل کروائیں۔

تحفظ اوراق مقدسہ: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں، اوراقِ مقدسہ کی دیگر تنظیموں کے سربراہان وغیرہ کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
10 مارچ	پیر	رابطہ برائے تاجران

رابطہ برائے تاجران: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز جن تاجروں سے ہمارے رابطے ہیں، انہیں بھی دعوت دے کر ساتھ لے کر آئیں۔ بالخصوص فیکٹری / مل مالکان، شہر کے بڑے تاجران۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
11 مارچ	متگل	مدنی چینل عام کریں + سوشل میڈیا ایکٹویسٹ + رابطہ برائے شوہز ڈیپارٹمنٹ، رابطہ اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ + میڈیا ڈیپارٹمنٹ + رابطہ برائے وکلا

مدنی چینل عام کریں: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت

کریں نیز کیبل آپریٹرز وغیرہ کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔
 رابطہ برائے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ: تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور شعبے سے وابستہ افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔
 رابطہ برائے شوہز ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور تھیٹرز کے عملے کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔
 رابطہ برائے اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اسپورٹس اکیڈمی، اسپورٹس بزنس مین کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں
 رابطہ برائے میڈیا ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور شعبے سے وابستہ افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔
 رابطہ برائے وکلاء: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور شعبے کی شخصیات، وکلاء اور بار سے متعلق اسٹاف کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
12 مارچ	بدھ	رابطہ برائے میڈیکل ڈیپارٹمنٹ + پروفیشنلز فورم، آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ

رابطہ برائے میڈیکل ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ (ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، میڈیکل اسٹورز مالکان وغیرہ کے افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

پروفیشنلز ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مختلف پروفیشنلز کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
13 مارچ	جمعرات	مزاراتِ اولیاء، رابطہ بالعلماء + امام مساجد، امامت کورس، فیضانِ مدینہ

مزاراتِ اولیاء: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ گدی نشین، مزارات کی انتظامیہ وغیرہ کے افراد کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

رابطہ بالعلماء: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور علمائے کرام کو بھی شرکت کی درخواست کریں۔

شعبہ امام مساجد: شعبے کے ذمہ داران کے ساتھ، امام صاحبان، مسجد انتظامیہ اور نمازیوں کو بھی دعوت دی جائے۔

شعبہ امامت کورس: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور 2024ء میں امامت کورس کرنے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

شعبہ فیضانِ مدینہ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ فیضانِ مدینہ کے امام صاحبان، نائب امام، خطیب و شعبے کے ذمہ داران، تمام نمازیوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
14 مارچ	جمعہ	مدرسۃ المدینہ (بوائز) + اسپیشل پرسنز ڈیپارٹمنٹ

مدرسۃ المدینہ (بوائز): شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرست صاحبان، سابقہ حفاظ کرام و ناظرہ خواں اور مقامی مجالس کے ذمہ داران کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

اسپیشل پرسنز ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز اسپیشل پرسنز کے اداروں سے وابستہ افراد اور اسپیشل پرسنز کے سرپرست صاحبان کو بھی ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
15 مارچ	ہفتہ	رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈیپارٹمنٹ، رابطہ برائے ہومیو پیتھک ڈیپارٹمنٹ

رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور شعبے کی شخصیات و ڈاکٹرز، متعلقہ میڈیکل اسٹورز کے افراد کو ساتھ لائیں۔

رابطہ برائے ہومیو پیتھک ڈیپارٹمنٹ: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور شعبے کی شخصیات و ڈاکٹرز، متعلقہ کالج اور متعلقہ میڈیکل اسٹورز کے افراد کو ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
16 مارچ	اتوار	مدرسۃ المدینہ (رہائشی)، مدرسۃ المدینہ (شارٹ ٹائم)، مدرسۃ المدینہ (کورسز)، رابطہ برائے حکیم

مدرسۃ المدینہ رہائشی: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز بچوں کے

ساتھ ان کے سرپرست صاحبان، سابقہ حفاظ کرام و ناظرہ خواں اور مقامی مجالس کے ذمہ داران کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز بچوں کے ساتھ ان کے سرپرست صاحبان کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

مدرسۃ المدینہ کورسز: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور 2024ء میں کورس کرنے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

رابطہ برائے حکیم: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ اور شعبے کی شخصیات و حکماء کو ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
17 مارچ	پیر	شعبہ محبتیں بڑھاؤ

🌸 شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ ایسے اسلامی بھائی جو پہلے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، اجتماع میں آتے تھے اب نہیں آتے، ان کو بھی ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
18 مارچ	منگل	رابطہ برائے شخصیات + شعبہ کارکردگی

رابطہ برائے شخصیات: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ بالخصوص اہم اور بڑی شخصیات کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

شعبہ کارکردگی: شعبے سے وابستہ تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
19 مارچ	بدھ	خدام المساجد والمدارس المدینہ، کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ، پراپرٹی ڈیپارٹمنٹ

خدام المساجد والمدارس المدینہ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مساجد کے ڈونرز کو بالخصوص دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ: ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ افراد کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

پراپرٹی ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ زیر تعمیر پروجیکٹس کی مجالس اور مقامی مجالس کے ذمہ داران کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
20 مارچ	جمعرات	المدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ، تقسیم رسائل

المدینۃ العلمیہ: شعبے کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

مکتبۃ المدینہ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مکتبۃ المدینہ کے کسٹمرز اور اہلسنت کے مکتبوں کے مالکان (Owners) کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔ تقسیم رسائل: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور جہاں پر رسائل ریکس رکھے ہوتے ہیں ان افراد کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
21 مارچ	جمعہ	شعبہ فیضان اسلام، سیکوریٹی ڈیپارٹمنٹ

شعبہ فیضان اسلام: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں، اسلام قبول

کرنے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مختلف سیکیورٹی کمپنی کے مالکان کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
22 مارچ	ہفتہ	روحانی علاج

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مریضوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
23 مارچ	اتوار	نیو سوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ + شعبہ حج و عمرہ

نیو سوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص نیو سوسائٹیز کی شخصیات کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

شعبہ حج و عمرہ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ ٹریول ایجنسی کے مالکان / حج و عمرہ کے کاروان والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
24 مارچ	پیر	معاونت برائے اسلامی بہنیں

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص ذمہ دار اسلامی بہنوں کے محارم کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
25 مارچ	منگل	رابطہ برائے شخصیات

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص اہم شخصیات کو

بھر پور دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
26 مارچ	بدھ	شعبہ تعلیم

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں نیز تعلیمی اداروں کے پروفیسرز، ٹیچرز، اسٹاف، اسٹوڈنٹس کو بھی لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
27 مارچ	جمعرات	جامعۃ المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی

جامعۃ المدینہ: شعبے کے تمام ذمہ داران، ناظمین، مدرسین خود بھی شرکت کریں۔ بالخصوص طلبہ کرام، ان کے سرپرست صاحبان، مقامی مجالس کے ذمہ داران اور درسِ نظامی مکمل کیے ہوؤں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

فیضان آن لائن اکیڈمی: شعبے کے تمام ذمہ داران، ناظمین، مدرسین خود بھی شرکت کریں۔ بالخصوص طلبہ کرام، ان کے سرپرست صاحبان کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
28 مارچ	جمعہ	رابطہ برائے تاجران

شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز جن تاجران سے ہمارے رابطے ہیں، انہیں بھی دعوت دے کر ساتھ لے کر آئیں۔ بالخصوص فیکٹری / مل مالکان، شہر کے بڑے تاجران۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
29 مارچ	ہفتہ	شعبہ عشر + FGRF

شعبہ عشر: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز بڑے زمینداروں، کسانوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

FGRF: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز فلاحی تنظیموں کے سربراہان اور جن کی کسی بھی موقع پر کسی بھی انداز سے امداد کی گئی ان کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
30 مارچ	اتوار	تمام شعبہ جات

❁ الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
31 مارچ	پیر	تمام شعبہ جات

❁ الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔



فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم

اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے
اور اس کیلئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے
ان کے کرنے والے کے لئے ہوتی ہیں۔

(ابن ماجہ 2/365، حدیث: 1781)

